



# اصلاحی خطابات

جلد ۱۵

- تعویذ گندے اور جہاڑ پھونک
- اچھے اخلاق کا مطلب
- نکاح جنسی تسلیم کا جائز ذریعہ
- دلوں کو پاک کریں
- آنکھیں بڑی نعمت ہیں
- خواتین اور پرودہ
- اہمیت کا سیلاب
- عہد اور وعدہ کی اہمیت
- نماز کی حفاظت کیجئے

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدرس

میرزا مسیل الدین پیلسی

۱۵

# اصالی خطیبات

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب قلم



مطبوع و ترتیب  
مطبعہ دلشنیش

میون اسلامک پبلیشورز

۱۰۰، بیانات نگارخانہ، کراچی

## چالہ تحقیق مکتبہ اختر شریفی

خطاب	⇒ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
خطب و ترتیب	⇒ مولانا محمد عبد اللہ سعید صاحب
تاریخ اشاعت	⇒ مئی ۲۰۰۵ء
مقام	⇒ جامع مسجد بیت المکرم، گلشنِ اقبال، کراچی
باہتمام	⇒ ولی اللہ سعید
ناشر	⇒ سین اسلام پبلیشورز
کپورس	⇒ عبدالماجد پراچہ (فون: 0333-2110941)
قیمت	⇒ / روپے

### ملنے کے پتے

- سین اسلام پبلیشورز، ۱/۱۸۸، لیاقت آباد، کراچی ۱۹
- دارالاشعاعت، اردو بازار، کراچی
- مکتبہ دارالعلوم کراچی ۱۳
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۲
- کتب خانہ مظہری، گلشنِ اقبال، کراچی
- اقبال بک سینٹر صدر کراچی
- مکتبۃ الاسلام، الٹی ٹھوڑی، کورنگی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

## پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ظہریم العالی

الحمد لله و كفى، وسلام على عباده الذين  
اصطفى - اما بعد!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعلیل میں احقر کنی سال سے جمعہ کے روز  
عمر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم مغلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں  
کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال  
کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا  
فائدة ہوتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ سامنے بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس  
سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبد اللہ سیمن صاحب سلمہ نے کچھ عرب سے  
سے احقر کے ان بیانات کو نیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیٹ تیار  
کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے  
معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسوں کی تعداد اب ساڑھے چار سو سے زائد ہو گئی ہے۔ انہی میں  
سے کچھ کیسوں کی تقاریر مولانا عبد اللہ سیمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمائیں اور

ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلی خطبات" کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ہانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک منید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحدیت آئی ہیں، ان کی تحریک کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تخلیص ہے جو کیشوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچنے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوئی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سر خوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نفے بیاد بیاد توی زخم، چہ عبارت و چہ معافیم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صد عطا فرمائیں آمین۔

محمد تقی عثمانی

دارالعلوم کراچی ۱۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## عرض ناشر

الحمد لله "اصلاحی خطبات" کی پندرہویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چودھرویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے پندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد لله، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں صرف ایک سال کے عرصہ میں یہ جلد تیار ہو کر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر کرم جناب مولانا عبداللہ میکن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتحک محنت اور کوشش کر کے پندرہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمادے۔ اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

طالب دعا  
دلي اللہ میکن

# اجمالی فہرست

## جلد ۱۵

### صفحہ نمبر

### عنوان

۲۹	تو عویضہ گنڈ سے اور جہاڑ پھونک
۴۳	مز کیسے کیا چیز ہے؟
۸۱	اچھے اخلاق کا مطلب
۹۹	دولوں کو پاک کریں
۱۱۷	تصوف کی حقیقت
۱۳۰	نکاح جنسی تسلیکین کا جائز ذریعہ
۱۵۱	آنکھوں کی حفاظت کریں
۱۶۴	آنکھیں بڑی نعمت ہیں
۱۸۳	خواہیں اور پرده
۱۹۹	بے پردگی کا سلسلہ
۲۱۵	امانت کی اہمیت
۲۲۷	امانت کا وسیع مفہوم
۲۵۱	عہد اور وعدہ کی اہمیت
۲۶۹	عہد اور وعدہ کا وسیع مفہوم
۲۸۳	نمایز کی حفاظت کیجئے

## فہرست مضمایں

صفہ نمبر :-

عنوان

### تعویذ گندے اور جھاڑ پھونک

۳۱	ائتیت محمدیہ کی کثرت
۳۲	کثرت ائمہ دیکھ کر آپ کی خوشی
۳۳	ستر ہزار افراد کا بلا حساب جنت میں دخول
۳۴	چار او صاف والے
۳۵	ستر ہزار کا عدد کیوں؟
۳۶	ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا
۳۷	ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے
۳۸	تکلیف یقینی اور فائدہ غیر یقینی والا اعلان
۳۹	اعلان میں بھی اعتدال مطلوب ہے
۴۰	بد شکونی اور بد قائمی کوئی چیز نہیں
۴۱	تعویذ گندوں میں افراط و تفریط
۴۲	جھاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد

## عنوان

## صفحہ نمبر

- ۳۰ جھاڑ پھونک کے الفاظ کو مؤثر کھتنا  
ہر جنگ کی خاصیت اور طاقت مختلف  
جنات اور شیاطین کی طاقت  
اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں
- ۳۱ بیمار پر پھونکنے کے مسنون الفاظ
- ۳۲ معوذین کے ذریعہ دم کرنے کا معمول
- ۳۳ مرض و قات میں اس معمول پر عمل
- ۳۴ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ  
سردار کوسانپ نے ڈس لیا
- ۳۵ سورہ فاتحہ سے سانپ کا زہرا تحریکیا
- ۳۶ جھاڑ پھونک پر معاوضہ لینا  
تعویذ کے مسنون کلمات
- ۳۷ ان کلمات کے فائدے
- ۳۸ اصل سنت "جھاڑ پھونک" کا عمل  
کون سے "تمام" شرک ہیں؟
- ۳۹ جھاڑ پھونک کے لئے چند شرائط

## عنوان

## صفحہ نمبر

- پہلی شرط  
دوسری شرط  
سید قیہ حضور ﷺ سے ثابت ہے  
تعویذ دینا عالم اور متمنی ہونے کی دلیل نہیں  
تعویذ گندے میں انہاک مناسب نہیں  
ایک انوکھا تعویذ  
میری گی ماگ پر زالا تعویذ  
ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرنا  
تعویذ کرنانہ عبادت نہ اس پر ثواب  
اصل چیز دعا کرنا  
تعویذ کرنے کو اپنا مشغلہ بنا لینا  
روحانی علاج کیا ہے؟  
صرف تعویذ دینے سے ہیر بن جانا  
ایک عامل کا وحشت ناک واقعہ  
حاصل کلام

## ترکیب کیا چیز ہے؟

- ۶۶ تمہید
- ۶۷ تین صفات کا بیان
- ۶۸ آیت کا دوسرا مطلب
- ۶۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصد  
ترکیب کی ضرورت کیوں؟
- ۷۰ تھیوریکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعد ٹریننگ ضروری ہے  
آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے
- ۷۱ اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟
- ۷۲ ”دل“ انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے  
دل میں لطیف قوتیں رکھی گئی ہیں
- ۷۳ ”ول“ میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں  
”ول“ کی اہمیت
- ۷۴ جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے
- ۷۵ ”ول“ کا ارادہ پاک ہونا چاہئے  
نیک ارادے کی مثال

## عنوان

## صفحہ نمبر

- ۷۴ دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی  
 ۷۵ ”اخلاص“ دل کا حلال عمل ہے  
 ۷۶ ”شکر“ اور ”صبر“ دل کے اعمال ہیں  
 ۷۸ ”سکبیر“ دل کا حرام فعل ہے  
 ۷۹ ”ترکیہ“ اسی کا نام ہے  
 ۸۰ تصور کی اصل حقیقت  
 ۸۰ خلاصہ

## اچھے اخلاق کا مرطلب

- تہمید  
 ۸۲ ”ول“ کی کیفیات کا نام ”اخلاق“ ہے  
 ۸۳ فطری جذبات کو اعتدال پر رکھیں  
 ۸۴ ”غصہ“ فطری جذبہ ہے  
 ۸۵ یہ بے غیرتی کی بات ہے  
 ۸۶ غصہ کو صحیح جگہ پر استعمال کریں  
 ۸۷ ”غصہ“ حد کے اندر استعمال کریں  
 ۸۸ ”غصہ“ کی حدود

## عنوان

## صفہ نمبر

- ۹۰ "عزت نفس" کا جذبہ فطری ہے  
"عزت نفس" یا "تکبر"
- ۹۱ "تکبر" مخصوص ترین جذبہ ہے  
"تکبر" کو سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں
- ۹۲ "امریکہ" انتہائی تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے  
"تکبر" دوسری بیماریوں کی جڑ ہے
- ۹۳ "اخلاق" کو پاک کرنے کا طریقہ "نیک صحبت"  
زمانہ جالمیت اور صحابہ کا غصرہ
- ۹۴ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصرہ میں اعتدال  
اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے
- ۹۵ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو  
دلوں کو پاک کریں
- 
- ۱۰۲ تمہید  
دل کی اہمیت
- ۱۰۳ فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے  
اخلاق کی خرابی کے نتائج
- ۱۰۴

## صفحہ نمبر

## عنوان

- ۱۰۵ روپیہ حاصل کرنے کی دوڑ
- ۱۰۶ اللہ اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجہ
- ۱۰۷ عراق پر امریکہ کا حملہ
- ۱۰۸ قرآن کریم کا ارشاد اور اس پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ
- ۱۰۹ مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں
- ۱۱۰ ذاتی مقاد کو سامنے رکھنے کے نتائج
- ۱۱۱ ہم لوگ خود غرضی میں بٹلا ہیں
- ۱۱۲ ہمارے ملک میں کرپشن
- ۱۱۳ دنیا میں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے
- ۱۱۴ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول
- ۱۱۵ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟
- ۱۱۶ ہم پورے دین پر عامل نہیں
- ۱۱۷ ہم دشمن کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں
- ۱۱۸ اس واقعہ سے سبق لو
- ۱۱۹ معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے
- ۱۲۰ آپ یہ تہبیہ کر لیں
- ۱۲۱ امریکہ کی بزوی

## صفحہ نمبر

## عنوان

۱۱۵

ایسے حملے کب تک ہوں گے؟

۱۱۶

دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کرلو

**تصوف کی حقیقت**

۱۲۰

تمہید

باطن سے متعلق لازم احکام

۱۲۱

باطن سے متعلق حرام کام

۱۲۲

یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

۱۲۳

”علم تصوف“ کے بارے میں غلط فہمیاں

۱۲۴

تصوف کے بارے میں دو تصرف

۱۲۵

تصوف کا اصل تصور

حضرت فاروق عظیم اور جنت کی بشارت

۱۲۶

حضرت فاروق عظیم اور خوف

۱۲۷

حضرت فاروق عظیم کا پر نالہ توڑنا

۱۲۸

میری پیٹھ پر کھڑے ہو کر پر نالہ لگاؤ

۱۲۹

ایسا کیوں کیا؟

۱۳۰

حضرت ابو ہریرہ اور نفس کی اصلاح

ہمارا حال

## عنوان

## صفحہ نمبر

۱۳۱	کسی معانیج کی ضرورت
۱۳۱	اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راست
۱۳۲	یہ سادہ دل بندے کے کدرہ جائیں
۱۳۲	مصلح قیامت تک باقی رہیں گے
۱۳۳	ہر چیز میں ملاوت
۱۳۳	جیسی روح و یہ فرشتے
۱۳۴	خلاصہ

## نکاح جنسی تسلیکیں کا جائز ذریعہ

۱۳۸	تمہید
۱۳۸	چوتھی صفت
۱۳۹	جنسی جذبہ فطری ہے
۱۳۹	دو حلال راستے
۱۴۰	اسلام کا اعدال
۱۴۱	عیساویت اور رہبانیت
۱۴۲	عیسائی راہیہ ہورتیں
۱۴۲	یہ فطرت سے بغاوت تھی

## عنوان

## صفحہ نمبر

۱۴۳	شیطان کی پہلی چال
۱۴۳	شیطان کی دوسری چال
۱۴۴	نکاح کرنا آسان کر دیا
۱۴۴	عیسائی مذہب میں نکاح کی مشکلات
۱۴۵	خطبہ و اجنب نہیں
۱۴۵	شادی کو عذاب بنالیا
۱۴۶	حضرت عبدالرحمن بن عوف اور شادی
۱۴۷	حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور نکاح
۱۴۸	جائے تعلقات پر اجر و ثواب
۱۴۹	نکاح میں تاخیر مت کرو
۱۵۰	ان کے علاوہ سب حرام راستے ہیں
۱۵۰	اختتام

**آنکھوں کی حفاظت کریں**

۱۵۲	تمہید
۱۵۵	یہ مغربی تہذیب ہے
۱۵۶	یہ جذبہ کسی حد پر رکنے والا نہیں
۱۵۶	پھر بھی تسلیم نہیں ہوتی

## صفحہ نمبر

## عنوان

۱۵۷	حد سے گزرنے کا نتیجہ
۱۵۸	پہلا بند: نظر کی حفاظت
۱۵۸	نگاہیں نیچے رکھیں
۱۵۹	آ جکل نظر بچانا مشکل ہے
۱۵۹	یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے
۱۶۰	آنکھوں کی حفاظت کیلئے پیرہ خرچ کرنے پر تیار
۱۶۱	آنکھ کی پتلی کی عجیب شان
۱۶۱	آنکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام
۱۶۲	نگاہ پر صرف دو پابندیاں ہیں
۱۶۳	اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط نگادی جائے
۱۶۴	نگاہ ڈالنا اجر و ثواب کا ذریعہ
۱۶۵	نظر کی حفاظت کا ایک طریقہ
۱۶۶	ہمت سے کام لو
۱۶۷	خلاصہ
۱۶۸	آنکھیں بڑی نعمت ہیں
۱۶۹	تمہید
۱۷۰	پہلا حکم: نگاہ کی حفاظت
۱۷۱	

## عنوان

صفحہ نمبر	
۱۷۲	آنکھیں بڑی نعت ہیں
۱۷۳	آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں
۱۷۴	شرماگاہ کی حفاظت آنکھ کی حفاظت پر ہے
۱۷۵	قلعے کا حاصروں کرنا
۱۷۶	موسک کی فراست سے بچو
۱۷۷	پورا شکر بازار سے گزر گیا
۱۷۸	یہ منتظر دیکھ کر اسلام لائے
۱۷۹	کیا اسلام تکوار سے پھیلا ہے؟
۱۸۰	شیطان کا حملہ چار اطراف سے
۱۸۱	یخچے کا راستہ محفوظ ہے
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا وصیان
	اچھتی نگاہ معاف ہے
	یہ نیک حرایتی ہے
	اللہ تعالیٰ سے دعا

## عنوان

## خواتین اور پرودہ

۱۸۴

تمہید

پہلا حکم: آنکھ کی حفاظت

۱۸۷

دوسرا حکم: خواتین کا پرودہ

۱۸۸

خواتین گروں میں رہیں

۱۸۸

آج کل کا پروپریگنڈا

۱۸۹

آج پروپریگنڈے کی دنیا ہے

۱۸۹

یہ اصولی حدایت ہے

۱۹۰

مرد اور عورت دو الگ الگ صفتیں

۱۹۰

ذمہ داریاں الگ الگ ہیں

۱۹۱

حضور ﷺ کی تقسیم کار

۱۹۲

صحتی انقلاب کے بعد وہ مسئلے

۱۹۲

آج عورت قدم قدم پر موجود

۱۹۳

مغرب میں عورت کی آزادی کا نتیجہ

۱۹۳

بوزہا باپ "اولڈ ایج ہوم" میں

۱۹۴

مغربی عورت ایک بکاؤ مال

## صفحہ نمبر

## عنوان

۱۹۵	عورت کو دھوکہ دیا گیا
۱۹۶	عورت پر ظلم کیا گیا
۱۹۷	ہمارے معاشرے کا حال ایسی مساوات فطرت سے بغاوت ہے بے پردگی کا سیلا ب

۲۰۲	تمہید
۲۰۳	جنی تیکین کا حلال راست
۲۰۴	انسان کتے اور لگی کی صفائی میں
۲۰۵	نہ بچھنے والی پیاس بن جاتی ہے
۲۰۶	حرام سے بچنے کیلئے دو پھرے
۲۰۷	خاندانی نظام کی بقاء پر دہ میں
۲۰۸	مغرب کا عورت پر ظلم
۲۰۹	عورت اور لباس
۲۱۰	لباس کے دو مقصد
۲۱۱	باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟
۲۱۲	چپڑہ کا پردہ ہے

## عنوان

## صفحہ نمبر

- ۲۰۹ یہ پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہیں  
مرد و عورت کا فرق ختم ہو چکا
- ۲۱۰ ہم مغرب کی تقلید میں
- ۲۱۱ بے پردگی کا سلسلہ آ رہا ہے
- ۲۱۲ عورت کی عقل پر پرده
- ۲۱۳ پردو پیکنڈز کے کا اثر
- ۲۱۴ کیا آدمی آبادی بیکار ہو جائے گی؟
- ۲۱۵ کام وہ ہے جس سے پیغمبر حاصل ہو
- ۲۱۶ اب بھی ہوش میں آ جائیں
- ۲۱۷ عقولوں پر سے یہ پرده اٹھائیں

## امانت کی اہمیت

- ۲۱۸ تمہید
- ۲۱۸ امانت اور عہد کا پاس رکھنا
- ۲۱۹ امانت قرآن و حدیث میں
- ۲۱۹ امانت اٹھائی جکی ہے
- ۲۲۰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہوا
- ۲۲۱ غزوہ خیبر کا ایک واقعہ

## عنوان

## صفحہ نمبر

۲۲۱	اسود چڑو لہا
۲۲۲	حضور سے مکالہ
۲۲۳	اور اسود مسلمان ہو گیا
۲۲۴	پہلے بکریاں مالک تک پہنچاؤ
۲۲۵	خت حالات میں امانت کی پاسداری
۲۲۶	گوار کے سائے میں عبادت
۲۲۷	جنت الفردوس میں پہنچ گیا
۲۲۸	امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں

## امانت کا وسیع مفہوم

۲۳۰	تمہید
۲۳۰	ہمارے ذہنوں میں امانت
۲۳۱	یہ زندگی اور جسم امانت ہیں
۲۳۱	خود کشی کیوں حرام ہے؟
۲۳۲	اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں
۲۳۲	اوقات امانت ہیں
۲۳۲	قرآن کریم میں امانت
۲۳۳	آسمان، زمین اور پھاڑ ذرگے
۲۳۳	انسان نے امانت قبول کر لی

۱۷۲

۲۳۴

## صفحہ نمبر

## عنوان

۲۳۵	لازمت کے فرائض امانت ہیں وہ تنخواہ حرام ہو گئی
۲۳۶	لازمت کے اوقات امانت ہیں
۲۳۷	پسینے لکھا یا نہیں؟
۲۳۸	خانقاہ تھانہ بھون کا اصول
۲۳۸	تنخواہ کا منے کی درخواست
۲۳۹	اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دو
۲۴۰	حلال و حرام میں فرق ہے
۲۴۰	عاریت کی چیز امانت ہے
۲۴۱	حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ اور امانت کی لگنر
۲۴۲	موت کا دھیان ہر وقت
۲۴۲	دوسرے کی چیز کا استعمال
۲۴۳	وفتری اشیاء کا استعمال
۲۴۳	دواں کا غلط استعمال
۲۴۴	حرام آمدی کا ذریعہ
۲۴۵	باطل منے کے لئے آیا ہے
۲۴۵	حق صفات نے ابھار دیا ہے
۲۴۶	مجلس کی باتیں امانت ہیں
۲۴۶	راز کی بات امانت ہے

## عنوان

## صفحہ نمبر

۲۲۶	اعضاہ امانت ہیں
۲۲۷	آنکھ کی خیانت
۲۲۸	کان اور ہاتھ کی خیانت
۲۲۹	چماں سے چراغ جلتا ہے

## عہد اور وعدہ کی اہمیت

۲۵۱	تمہیر
۲۵۲	قرآن و حدیث میں عہد
۲۵۳	وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو
۲۵۴	عذر کی صورت میں اطلاع دے
۲۵۵	ایک صحابی کا واقعہ
۲۵۶	بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں
۲۵۷	بچے کے اخلاق بگاڑنے میں آپ مجرم ہیں
۲۵۸	بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا
۲۵۹	حضور ﷺ کا تین دن انتظار کرنا
۲۶۰	حضرت حدیفۃؓ کا ابو جہل سے وعدہ
۲۶۱	حق و باطل کا پہلا معرکہ "غزہ بدر"
۲۶۲	گروں پر تکوار کر کر لیا جانے والا وعدہ
۲۶۳	تم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو

## صخونبر

## عنوان

۲۶۲	جہاد کا مقصد حق کی سرپلندی
۲۶۳	یہ ہے وعدہ کا ایفاء
۲۶۴	حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۲۶۵	حق حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر
۲۶۶	یہ معاهدے کی خلاف ورزی ہے
۲۶۷	سارا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا
۲۶۸	حضرت قاروق اعظمؑ اور معاهدہ

## عہد اور وعدہ کا واسطہ مفہوم

۲۶۹	تمہید
۲۷۰	ملکی قانون کی پابندی لازم ہے
۲۷۱	خلاف شریعت قانون کی خالفت کریں
۲۷۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قانون
۲۷۳	ویز الیتا ایک معاهدہ ہے
۲۷۴	اس وقت قانون توڑنے کا جواز تھا
۲۷۵	اب قانون توڑنا جائز نہیں
۲۷۶	درینک کے قوانین کی پابندی
۲۷۷	ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا
۲۷۸	ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

## عنوان

## صفیفہ

- ۲۸۸ خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو  
صلح حدیبیہ کی ایک شرط  
حضرت ابو جندلؑ کی اتجاه  
ابو جندل کو واپس کرنا ہوگا  
میں معاهدہ کر چکا ہوں۔  
۲۸۹ عہد کی پابندی کی مثالیں  
۲۹۰ جیسے اعمال و یہیں حکمران  
۲۹۱

## نماز کی حفاظت کیجئے

- ۲۹۲ تہمید  
۲۹۳ تمام صفات ایک نظر میں  
۲۹۴ پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت  
۲۹۵ نماز کی پابندی اور وقت کا خیال  
۲۹۶ یہ منافق کی نماز ہے  
۲۹۷ اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے  
۲۹۸ جماعت سے نماز ادا کریں  
۲۹۹ نماز کے انتظار کا ثواب  
۳۰۰ ان کے گھروں کو آگ لگادوں

## صفہ نمبر

## عنوان

۲۹۳	جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے
۲۹۴	عیسائیت کی تقلید نہ کریں
۲۹۵	خواتین اول وقت میں نماز ادا کریں
۲۹۶	نماز کی اہمیت دیکھئے
۲۹۶	جنت الفردوس کے وارث





# تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیہم



منظود ترتیب  
موعبد اندھیں

میمن اسلامک پبلیشورز

"دیاتہ بیداری" ۱۰۰/۰

مقام خطاب : جامع مسجد بیت الکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر نا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## تعویذ گندے اور جھاڑ پھونک

### کی شرعی حیثیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَاتِ وَرَبِّ الْجَنَّاتِ وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضَ  
نَعُوذُ بِهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا -  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِيلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ هَادِيٌ لَهُ وَآشْهَدُ أَنَّ لَا  
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ  
مَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلِّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ :

### امت محمدیہ کی کثرت

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور  
قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر  
ساری امتیں چیش کی گئیں۔ یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام چھپلی امتیں دکھائی  
گئیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیینی علیہ السلام کی  
امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی

گئیں۔ اور ان کے ساتھ امت محمد یہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی، اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا۔ اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتحوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔

### کثرتِ امت و دیکھ کر آپ کی خوشی

دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دو تین آدمی تھے، کسی کے ساتھ دس بارہ تھے، اس لئے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان لانے والے محدود چند افراد تھے بعض انبیاء پر ایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے، بعض پر ایمان لانے والے سو افراد تھے، بعض پر ایمان لانے والے ہزار تھے۔ جب یہ امتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ کو ایک بڑا گروہ نظر آیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدان پر چھا گیا، اور اور سارے پہاڑوں پر چھا گیا، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ یا محمد؟ ازِ ضیئت؟ کیا آپ راضی ہو گئے؟ یعنی کیا اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کی

اتی بڑی تعداد ہے جو کسی اور تسبیح کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: **نَعَمْ بِنَا رَبِّنَا** ! ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمد للہ، میری امت کے اندر اتنی بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے۔

سُترٌ هُزَارٌ فَرَادٌ كَا بِلًا حَسَابٌ جَنَّتٌ مِّنْ دُخُولٍ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری سنائی کہ :

”إِنَّ مَعَ هُؤُلَاءِ مَتَّبِعِينَ الْفَالَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ“  
(بخاری کتاب الطہ، باب بن لمیق)

یعنی یہ جو امت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں ستر ہزار فراد ایسے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار صفتیں ہوں گی۔

### چاراوصاف والے

چہلی صفت یہ ہے کہ **هُمُ الَّذِينَ لَا يَشْرُكُونَ**، یعنی وہ لوگ جو جہاڑ پھونک نہیں کرتے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگ بیماری کا علاج داغ لگا کرنہ نہیں کرتے، اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی بیماری کا کوئی علاج کا رگر نہیں ہوتا تو اس وقت وہ لوگ لوہا گرم کر کے بیماز کے جسم سے لگاتے تھے۔ تیسرا

صفت یہ کہ وہ بدشکونی نہیں لیتے کہ فلاں بات ہو گئی تو اس سے نہ اٹھوں لے لیا۔  
چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ جبار و تعالیٰ پر تو حکل  
کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ چار صفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں داخل  
ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

### ستر ہزار کا عدد کیوں؟

اور یہ جو ستر ہزار افراد بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، ان کے  
لئے جو عدد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ستر ہزار ہوں گے، بعض حضرات نے اس کی  
تحقیق میں فرمایا کہ واقعہ وہ ستر ہزار افراد ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا  
کہ یہ ستر ہزار کا لفظ بیان عدد بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان  
کرنا مقصود ہے، جیسے کوئی شخص کسی چیز کی کثرت کو بیان کرتا ہے تو اس کے لئے  
عدد بیان کر دیتا ہے، جبکہ مقصود عدد بیان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کثرت بیان کرنی  
مقصود ہوتی ہے، اسی طرح بیان بھی اس عدد سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ  
تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس امت کے بے شمار افراد کو بلا حساب و کتاب کے  
جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہ جو ستر ہزار افراد  
ہوں گے، پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار افراد ہوں گے جن کو اللہ  
تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت  
سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمادے۔ آمين

## ستہ ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا کہ :

**بَارَسُولَ اللَّهِ : فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ**

یا رسول اللہ : میرے لئے آپ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں داخل فرمادیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ، ان کو ان لوگوں میں داخل فرمادے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل فرمادیں، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

**سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ**

یعنی عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ مطلب یہ تھا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے دعا کی درخواست کر دی، میں نے اس کی تعمیل کر دی، اب یہ سلسلہ مزید دراز نہیں ہو گا، اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کو داخل فرمائیں گے۔

## ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے

اس حدیث میں انبیٰ محدث یہ علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بڑی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل فرمائیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیامند ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمائیں، لیکن ان کی رحمت کے پیش نظر ایک ادنیٰ سے ادنیٰ امتی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ میرے جیسے آدمی کو بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لہذا ہر مسلمان کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔

## تکلیف یقینی اور فائدہ غیر یقینی والا علاج

بہر حال، اس حدیث میں چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جائیں گی، وہ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے۔ اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کسی بیماری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگرنہ ہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ لوہا آگ پر گرم کر کے اس بیمار

کے جسم پر لگایا جائے۔ اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ جب جلتا ہوا لوہا جسم سے لگے گا تو کیا قیامت ڈھائے گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ علاج ہے اور اس سے بیماری دور ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ علاج کو پسند نہیں فرمایا، اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقد ہے اور فائدہ بخوبی نہیں، اور وہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہو جائے اور فائدہ کا پتہ نہ ہو کہ فائدہ ہو گایا نہیں، ایسا علاج پسندیدہ نہیں، تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا۔

### علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت یہ داغنے کا طریقہ علاج کے اندر غلوٰ اور مبالغہ ہے، عرب میں یہ مقولہ مشہور تھا کہ "آخر الدّواءِ الْكَثُرُ" یعنی آخری علاج داغ لگانا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آدمی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرانست ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چاہیے جو اعتدال کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پہنچ جائیں، اور مبالغہ سے کام لیں، یہ بات پسندیدہ نہیں۔ یہ درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی کی ہے، جس کی وجہ سے آدمی مبالغہ کر رہا ہے، انسان اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ کرے، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”أَبْجِيلُوا فِي الْطَّلَبِ“

(کنز اہمال حدیث ۹۲۹)

یعنی ایک اجتماعی کوشش کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، یہ ہے سنت، لہذا علاج میں اس طرح کا انتہا ک، اور بہت زیادہ غلوٰ یہ پسندیدہ نہیں۔

**بد شگونی اور بد فالی کوئی چیز نہیں**

دوسری صفت جو بیان فرمائی وہ بد شگونی ہے، اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شگونی لیتا کہ فلاں عمل سے یہ بد فالی ہو گئی، مثلاً تھی راستہ کاٹ گئی تو اب سفر متوی کر دیں، وغیرہ۔ یہ سب باتیں جاہلیت کے زمانے کی باتیں تھیں، اور اس کا اصل سبب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی کمی تھی، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ لوگ بد شگونی نہیں کرتے۔

**تعویذ گندوں میں افراط و تفریط**

تیسرا صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ جو جنست میں بلا سبب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ اسکے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گندوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جا رہی ہے، بعض لوگ وہ چیز جو سرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گندوں کے بالکل ہی قاتل نہیں، بلکہ وہ لوگ اس قسم کے تمام کاموں کو تمازج سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ

تو اس کام کو شرک قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گندوں کے اتنے زیادہ مختقد اور اس میں اتنے زیادہ منہمک ہیں کہ ان کو ہر کام کے لئے ایک تعویذ ہوتا چاہیے، ایک وظیفہ ہوتا چاہیے، ایک گنڈا ہوتا چاہیے، میرے پاس روزانہ بے شمار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب بھی کے رشتے نہیں آرہے ہیں، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں، روز گار نہیں مل رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں، دن رات لوگ بس اس فکر میں رہتے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ گندوں سے ہو جائے، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔

### جهاڑ پھونک میں غیر اللہ سے مدد

یہ دنوں پاتیں افراط و تغیریط کے اندر داخل ہیں، اور شریعت نے جو راستہ بتایا ہے وہ ان دنوں اختلاں کے درمیان ہے، جو قرآن و سنت سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ سمجھنا بھی قاطع ہے کہ جهاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں، اور تعویذ کرنا ناجائز ہے۔ اس لئے کہ اگر چہ اس روایت میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو جهاڑ پھونک نہیں کرتے۔ لیکن خوب سمجھو لیجئے کہ اس سے ہر قسم کی جهاڑ پھونک مرا جائیں، بلکہ اس حدیث میں زمانہ جاہلیت میں جهاڑ پھونک کا جو طریقہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جاہلیت میں عجیب و غریب قسم کے منتر لوگوں کو یاد ہوتے تھے، اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتر پڑھو تو اس سے فلاں بیماری سے افاقہ

ہو جائے گا، فلاں منتر پڑھو تو اس سے فلاں کام ہو جائے گا، وغیرہ، اور ان منتروں میں اکثر و پیشتر جنات اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی، کسی میں بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی۔ بہر حال ان منتروں میں ایک خرابی تو یہ تھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی کہ تم ہمارا یہ کام کر دو، اسی طرح ان منتروں میں مشرکانہ الفاظ ہوتے تھے،

### جہاڑ پھونک کے الفاظ کو موئڑ سمجھنا

دوسری خرابی یہ تھی کہ الٰل عرب ان الفاظ کو بذات خود موئڑ مانتے تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تاشیر دیتا تو ان میں تاشیر ہو گی اور اللہ تعالیٰ کی تاشیر کے بغیر تاشیر نہیں ہو گی، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تاشیر ہے، اور جو شخص یہ الفاظ بولے گا اس کو شفاف ہو جائے گی۔ یہ دو خرابیاں تو تھیں ہی۔ اس کے علاوہ بسا اوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ان کے معنی ہی سمجھنے میں نہیں آتے تھے، بالکل مہمل قسم کے الفاظ ہوتے تھے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے، اور ان الفاظ کو تعلویز کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے سوا شیاطین اور جنات سے مدد مانگی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ سب شرک کی باتیں تھیں، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے جہاڑ پھونک کے طریقے کو منع فرمادیا۔ اور یہ فرمایا کہ جو لوگ اس قسم کے جہاڑ پھونک اور تعلویز گندزوں میں جلاٹھیں ہوتے، یہ وہ لوگ

ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لہذا اس حدیث میں جس جہاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جہاڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں رواج تھا۔

## ہر مخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف

اس کی تھوڑی سی حقیقت بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کارخانہ حیات یہ کائنات کا پورا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں اور مختلف تاثیریں رکھ دی ہیں، مثلاً پانی کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ تاثیر آگ سے نکال دیں تو آگ جلانا چھوڑ دے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اسی آگ کو اللہ تعالیٰ نے گزار بنا دیا تھا۔ ہوا کے اندر تاثیر الگ رکھی ہے۔ مشی کی تاثیر الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پریدا فرمادی ہیں، انسان، جئات، جانور، شیاطین، وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے، انسان کو طاقت دے رکھی ہے، گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ہے، شیر اور ہاتھی کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہر ایک کی طاقت کا معیار اور پیمانہ مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہے، سانپ کے اندر زہر رکھ دیا، اگر وہ کسی کو کاش لے تو وہ مر جائے، اسی طرح پھونک کے اندر زہر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے کاشنے سے مرنا نہیں، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

خاصیتیں مختلف ہیں، اور طاقتیں مختلف ہیں۔

## جات اور شیاطین کی طاقت

اسی طرح جات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دے رکھیں ہیں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعثِ تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جات کو اور شیاطین کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے، یہ طاقت انسان کو حاصل نہیں، اگر انسان یہ چاہے کہ میں کسی کو نظر نہ آؤں، تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں ایک لمحہ میں یہاں سے اڑ کر امریکہ چلا جاؤں تو یہ طاقت اس کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن بعض جات اور شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے۔ یہ شیاطین لوگوں کو گراہ کرنے کے لئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھیرنے کے لئے بعض اوقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جو شرک والے ہیں، وہ شیاطین انسانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم وہ کلمات کہو گے جو شرک والے ہیں اور فوز باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرو گے تو ہم خوش ہوں گے، اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، اس کو تمہارے حق میں استعمال کریں گے۔

## اس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز کم ہو گئی ہے، اور وہ بھیجا رہا ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اب اگر کسی جن یا شیطان کو پتہ چل گیا کہ وہ کہاں پڑی ہو گی ہے تو وہ اس

چیز کو اٹھا کر ایک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ اس شیطان نے اپنے معتقدین سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر تم یہ کلمات کہو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور وہ چیز لَا کر دیدوں گا۔ اس کا نام ”جادو“ اس کا نام ”سحر“ اور ”کہاثت“ ہے، اور اسی کو ”سفل“، عمل بھی کہا جاتا ہے، اس عمل کا تعلق نہ کسی نیکی سے ہے، نہ تقویٰ سے، نہ دین سے ہے، اور نہ ہی ایمان سے، بلکہ بدترین کا فربمی اس طرح کے شعبدے و کھادیتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ میں بعض جنات اور شیاطین مسخر ہیں، وہ جنات ان کا کام کر دیتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اور بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحاںیت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس عمل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، اسی لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں حقیقت کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفر تک پہنچتی ہے۔ بہر حال یہ طریقہ جوز مانہ جاہلیت میں راجح تھا، تمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان ہے تو پھر یہ شرکیہ کلمات کہہ کر اور فضول مہمل کلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے۔

### بیمار پر پھونکنے کے منسنوں الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے منتروں کے

بجائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خود اللہ جل شانہ کے نام مبارک سے جھاڑ پھونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ یہ طریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو یہ کلمات کہو :

اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَذْهِبْ إِلَيْنَا الْبَأْسَ وَلَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي  
لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرْ سَقَمًا

(ابوداود، کتاب الطہ، باب فی الشَّافِی)

اور بعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کر فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھ کر تمہوکو، اور اس کے ذریعہ جھاڑو، آپ نے خود بھی اس پر عمل فرمایا، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔

### محوذتین کے ذریعہ دم کرنے کا معمول

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے محوذتین پڑھتے، اور بعض روایات میں ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ“ کا بھی اضافہ ہے، یعنی ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَفِرُوْنَ“ اور ”بُلْ أَغُوْذِبِرَبَّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ أَغُوْذِبِرَبَّ النَّاسِ“ ان تینوں سورتوں کو تین تین مرتبہ پڑھتے، اور پھر اپنے دو توں ہاتھوں پر پھونک مارتے، اور پھر پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے۔ یہ جھاڑ پھونک خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس عمل کے ذریعہ

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے، سحر سے اور فضول حلول سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

### مرض وفات میں اس معمول پر عمل

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، اور صاحب فراش تھے، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا دست مبارک پوری طرح اٹھانے پر قادر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ رات کا وقت ہے، اور سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر یہ عمل فرماتے رہے کہ معاذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو سارے جسم پر پھیرتے تھے۔ لیکن آج آپ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ یہ عمل فرمائیں۔ چنانچہ میں نے خود معاذتین پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر دم کیا، اور آپ ہی کے دست مبارک کو آپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا، اس لئے کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تو اس کی اتنی تائیر اور اتنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ خود آپ کے دست مبارک پھیرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعدد مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ اگر جهاڑ پھونک کرنی ہے تو اللہ کے کلام سے کرو، اور اللہ کے نام سے کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں یقیناً جو تائیر ہے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کھاں ہو سکتی ہے۔ لہذا آپ نے بھی کی

اجازت عطا فرمائی۔

### حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ

روایات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سفر پر جا رہا تھا، راستے میں ان کا زادرواء، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، راستے میں غیر مسلموں کی ایک بستی پر اس قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے جا کر بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو ہمیں دیو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں سے تحسب اور مذہبی دشمنی کی بنیاد پر کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کے قافلے نے بستی کے باہر پڑا وڈا دیا، رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات یہاں پر گزار کر سیع کسی اور جگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

### سردار کو سانپ نے ڈس لیا

اللہ کا کرتا ایسا ہوا کہ اس بستی کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، اب بستی والوں نے سانپ کے کامنے کے چتنے علاج تھے، وہ سب آزمائیے، لیکن اس کا زہر نہیں اترتا تھا، کسی نے ان سے کہا کہ سانپ کا زہر اتنا نے کے لئے جہاڑ پھونک کی جاتی ہے، اگر جہاڑ پھونک جانے والا ہو تو اس کو بلا یا جائے، تاکہ وہ

آگر زہرا تارے انہوں نے کہا کہ بستی میں تو جہاڑ پھونک کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ وہ قائلہ جو بستی کے باہر نہ ہوا ہے، وہ مولوی حتم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرو، شاید ان میں سے کوئی شخص سانپ کی جہاڑ جانتا ہو، چنانچہ بستی کے لوگ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور پوچھا کہ کیا آپ میں کوئی شخص ہے جو سانپ کے ڈسے کو جہاڑ دے، بستی کے ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحیح ہے میں جہاڑ دوں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل ہو کر ایک مسافر قائلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، تم نے ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بستی والوں نے کہا کہ ہم بکریوں کا پورا گہ آپ کو دیدیں گے، لیکن ہمارے آدمی کا تم علاج کر دو۔

### سورہ قاتحہ سے سانپ کا زہرا تر گیا

چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ مجھے جہاڑ پھونک تو کچھ نہیں آتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یقیناً برکت ہو گی، اس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بستی میں گیا، اور وہاں جا کر سورہ قاتحہ پڑھ کر دم کرتا رہا، سورہ قاتحہ پڑھتا اور دم کرتا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا زہرا تر گیا، اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور بکریوں کا ایک گلہ نہیں دیدیا، ہم نے بکریوں کا گہ ان سے لے لولیا، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ہمارے لئے ایسا

کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ بکریاں ہمارے لئے حلال بھی ہیں یا نہیں؟ الہذا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں، اس وقت تک ان کو استعمال نہیں کریں گے۔

(بخاری، کتاب الطه، باب الحدف فی الرقۃ)

### جھاڑ پھونک پر معاوضہ لینا

چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح بکریوں کا گلہ ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اس کو رکھیں یا نہ رکھیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے اس کو رکھنا جائز ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پڑھا کہ ساتپ کے کائیں کا یہ علاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ بے ہودہ حشم کے کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولیٰ تاثیر ہوگی، اس وجہ سے میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا، اور دم کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچا دیا، سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے، اور ان کی تائید فرمائی، اور بکریوں کا گلہ رکھنے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب دیکھئے، اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی نہ صرف تائید فرمائی، بلکہ اس عمل کے نتیجے میں بکریوں کا جو گلہ بطور انعام کے ملائما، اس کو رکھنے کی اجازت

عطافرمائی، اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل فرمایا اور صحابہ کرام سے بھی کرایا۔ یہ تو جھاڑ پھوک کا قضیہ ہوا۔

## تعویذ کے مسنون کلمات

اب تعویذ کی طرف آئیے، تعویذ کاغذ پر لکھے جاتے ہیں، اور ان کو بھی پیا جاتا ہے، اور بھی گلے اور بازو میں باندھا جاتا ہے، بھی جسم کے کسی اور حصے پر استعمال کیا جاتا ہے، خوب بمحظیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی تعویذ لکھا ہو، لیکن صحابہ کرام سے تعویذ لکھنا ثابت ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو یہ کلمات سکھائے تھے کہ :

﴿أَغُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ  
وَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظَاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہودی ان کے دشمن تھے، اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم یہ کلمات خود پڑھا کرو، اور اپنے اوپر اس کا دم کر لیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

## ان کلمات کے فائدے

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رات کو سوتے ہوئے کسی کی آنکھ گھبراہٹ سے بکھل جائے، اور اس کو خوف محسوس ہو تو اس وقت یہ کلمات پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولاد کو تو یہ کلمات سکھا دیے ہیں، اور یاد کر دیے ہیں، تاکہ اس کو پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور جو میرے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ کلمات خود سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لئے میں نے یہ کلمات کا غذر پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اور ثابت ہے۔ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو تو ولادت میں سہولت پیدا کرنے کے لئے تشری یا صاف برتن میں یہ کلمات لکھ کر اس کو دھو کر اس خاتون کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فرمادیتے ہیں، اسی طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ لکھ کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔

**اصل سبقت ”جھاڑ پھونک“ کا عمل ہے**

لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے جو حکیم الامم حضرت مولانا اشرف علی

صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور احادیث سے ملتینا وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کافائدہ تھانوی درجے کا ہے، اصل فائدے کی چیز ”جہاڑ پھونک“ ہے، جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عمل آپ نے خود فرمایا، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی، اس عمل میں زیادہ تاثیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعویذ اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آدمی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسرا شخص پڑھ کر دم کر سکتا ہو، اس موقع پر تعویذ دیدیا جائے، ورنہ اصل تاثیر ”جہاڑ پھونک“ میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔

### کون سے ”تمام“ شرک ہیں

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، اور گناہ ہے، اس کی وجہ ایک حدیث ہے جس کا مطلب لوگ صحیح نہیں سمجھتے، اس کے نتیجے میں وہ تعویذ لٹکانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

**إِنَّ الرُّفْقَى وَالشَّعَائِمَ وَالْمُؤْلَةَ شَرِكٌ**

(ابوداؤد، کتاب الطہ، باب فی التَّمَامِ)

”تمام“، حمیت کی جمع ہے، اور عربی زبان میں ”حمیت“ کے جو معنی ہیں اردو میں اس کے لئے کوئی لفظ نہیں تھا، اس لئے لوگوں نے غلطی سے اس کے معنی ”تعویذ“ سے کر دیے، اس کے نتیجے میں اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ ”تعویذ شرک ہے“

اب لوگوں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ ہر قسم کا تعویذ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ”تمیمة“ عربی زبان میں سیپ کی ان کوڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ دھاگے میں پروکر پھون کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان کوڑیوں پر مشرکانہ منتر پڑھتے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہ ان کوڑیوں کو بذات خود موثر سمجھا جاتا تھا، یہ ایک مشرکانہ عمل تھا، جس کو ”تمیمة“ کہا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرامت فرمائی کہ تمام شرک ہے۔

### جهاڑ پھونک کے لئے چند شرائط

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جهاڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اس لئے وہ ثمیک ہے، لیکن اس کے جواز کے لئے چند شرائط انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر یہ ممکن جائز نہیں۔

### پہلی شرط

پہلی شرط یہ ہے کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی کلمہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں ”یا فلاں“ کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، ایسا تعویذ، ایسا گنڈا، ایسی جهاڑ پھونک حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے مددی گئی ہو۔

## دوسری شرط

دوسری شرط یہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعریف میں لکھے ہوئے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کر کیا ممکن ہیں، ایسا تعریف استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی مشرکانہ کلمہ ہو، اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو، اس لئے ایسے تعریف بالکل منوع اور ناجائز ہیں۔

**یہ رقیہ حضور ﷺ سے ثابت ہے**

البته ایک ”رقیہ“ ایسا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر سانپ یا پھونکسی کو کاث لے تو اس کے کائے کا اثر زائل کرنے کے لئے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ :

**شَجَةُ قَرْزِيَّةٍ مِلْجَعُهُ بَخِرٌ قَطْنَعٌ**

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، شاید یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح سند کی ہے، اس لئے علماء کرام نے فرمایا کہ صرف یہ ایک ”رقیہ“ ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے ذریعہ جھاڑ پھونک بھی جائز

ہے، اور اس کے ذریعہ تعویذ لکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ اس پر ایسا بھروسہ کرنا کہ کویا انہی کلمات کے اندر بذات خود تاثیر ہے، یہ حرام ہے، بلکہ ان کلمات کو ایک تدیر  
سمجھے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہر حال، تعویذ اور جہاڑ پھونک کی یہ شرعی حقیقت ہے، لیکن اس معاملے میں افراط و تفریط ہو رہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس عمل کو حرام اور ناجائز  
سمجھتے ہیں، ان کی تفصیل تو عرض کرو۔

### تعویذ دینا عالم اور متقی ہونے کی دلیل تھیں

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس سارے دین ان تعویذ گندوں  
کے اندر مخصر ہے، اور جو شخص تعویذ گند اکرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا  
نیک آدمی ہے، اور پرہیز گار ہے، اسی کی تقلید کرنی چاہیے، اس کا معتقد ہوتا  
چاہیے۔ اور جو شخص تعویذ گند انہیں کرتا یا جس کو تعویذ گند اکرنا نہیں آتا اس کے  
بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ میری طرف  
رجوع کرتے ہیں کہ فلاں مقصد کے لئے تعویذ دید سمجھے، میں ان سے جب کہتا  
ہوں کہ مجھے تو تعویذ دینا نہیں آتا تو وہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے  
ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا دارالعلوم ہنا ہوا ہے، اس میں تعویذ گندے سکھائے جاتے  
ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جہاڑ پھونک کے ہوتے  
ہیں، لہذا جس کو جہاڑ پھونک اور تعویذ گند انبیاء آتا، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع

کر رہے ہیں۔ اس لئے جو اصل کام یہاں پر سیکھنے کا تھا، وہ تو اس نے سیکھا ہی نہیں۔

### تعویذ گندے میں انہماں ک مناسبت نہیں

ان لوگوں نے سارے دین تعویذ گندے میں سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض ایسی نہ ہو جس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چنانچہ ان کو ہر کام کے لئے ایک تعویذ چاہیے، فلاں کام نہیں ہو رہا ہے، اس کے لئے کیا وظیفہ پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں۔ لیکن ہمارے اکابر نے اعتدال کو ملحوظ رکھا کہ جس حد تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اس حد تک ان پر عمل کریں، نہیں کہ دن رات آدمی یہی کام کرتا رہے، اور دین و دنیا کا ہر کام تعویذ گندے کے ذریعہ کرے، یہ بات غلط ہے، اگر یہ عمل درست ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی، بس کافروں پر کوئی ایسی جہاڑ پھونک کرتے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتے۔ آپ نے اس جہاڑ پھونک پر کبھی کبھی عمل بھی کیا ہے، لیکن اتنا غلوٰ اور انہماں بھی نہیں کیا کہ ہر کام کے لئے تعویذ گندے کو استعمال فرماتے۔

### ایک انوکھا تعویذ

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، اس کے دماغ میں یہی بسا ہوا تھا کہ مولوی اگر تعویذ گندہ نہیں جانتا تو وہ بالکل

جالیل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، چنانچہ آپ کو بڑا عالم سمجھ کر آپ کے پاس آیا، اور کہا کہ مجھے تعلیم دیو، مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو تعلیم آتا نہیں، اس نے کہا کہ اب جی نہیں مجھے دیو، حضرت نے فرمایا کہ مجھے آتا نہیں تو کیا دیوں؟ لیکن وہ چیچھے پڑھ کیا کہ مجھے تعلیم دیو، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو کچھ سمجھے میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں، تو میں نے اس تعلیم میں لکھ دیا کہ ”یا اللہ یہ مانتا نہیں، میں جانتا نہیں“، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کا کام کر دیجئے، یہ لکھ کر میں نے اس کو دیدیا کہ یہ لکالے، اس نے لکالیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعہ اس کا کام بنا دیا۔

### میرٹی مانگ پر نرالا تعلیم

حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی، اور اس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو مانگ میرٹی بن جاتی ہے، سیدھی نہیں بنتی، اس کا کوئی تعلیم دیو۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تعلیم آتا نہیں، اور اس کا کیا تعلیم ہو گا کہ مانگ سیدھی نہیں نکلتی، مگر وہ عورت چیچھے پڑ گئی، حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کاغذ پر لکھ دیا: بسم اللہ الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقیم، اس کا تعلیم بنا کر لیکن لوتو شاید تمہاری مانگ سیدھی ہو جائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی کر دی ہوگی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چاکر دیتے ہیں۔ بہر حال، بزرگوں کے واقعات

اور حالات میں یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کلمہ لکھ دیا، اس سے فائدہ ہو گیا وہ اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی تیک بندے سے کوئی درخواست کی گئی، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہو جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

### ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرانا

آج کل یہ صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ ہر وقت آدمی اسی جہاڑ پھونک کے دھنڈے میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اسی تعویذ گذے کے چکر میں لگا رہتا ہے کہ صبح سے شام تک جو بھی کام ہو وہ تعویذ کے ذریعہ ہو، فلاں کام کا الگ تعویذ ہوتا چاہیے، فلاں کام کا الگ تعویذ ہوتا چاہیے، ملازمت کا الگ تعویذ ہوتا چاہیے، بیماری کا الگ تعویذ ہوتا چاہیے، ہر چیز کا الگ تعویذ ہوتا چاہیے، ہر چیز کی ایک الگ دعا ہونی چاہیے۔ تعویذ گذے میں اتنا انہاک اور غلوٹ سنت کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی جہاڑ پھونک کی ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ دنیا کے ہر کام کے لئے جہاڑ پھونک کر رہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ چہاد ہو رہے ہیں، بڑائی ہو رہی ہے، کہیں یہ منقول نہیں کہ کفار کو ذیر کرنے کے لئے آپ نے کوئی جہاڑ پھونک کی ہو۔

### تعویذ کرنا نہ عبادت نہ اس پر ثواب

ہاں: دعا ضرور فرماتے تھے، اس لئے کہ سب سے بڑی اور اصل چیز دعا ہے،

یاد رکھیے، تعلیم اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، مگر یہ عبادت نہیں، قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی سورتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے کسی دینیوی مقصد کے لئے استعمال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن یہ کام عبادت نہیں، اور اس میں ثواب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوائی لی، تو یہ دوائیا جائز ہے، لیکن دوائیا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اسی طرح تعلیم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعلیم اور جھاڑ پھونک میں اگر چہ اللہ کا نام استعمال کیا، لیکن جب تم نے اس کو اپنے دنیاوی مقصد کے لئے استعمال کیا تو اب یہ بذاتِ خود ثواب اور عبادت نہیں۔

### اصل چیز دعا کرنا ہے

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دور کعت صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا یہ مقصد پورا فرمادیجھئے، یا اللہ: میری مشکل حل فرمادیجھئے، یا اللہ: میری یہ پریشانی دور فرمادیجھئے، تو اس دعا کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوٰۃ الحاجۃ پڑھ کر دعا کرو تو زیادہ اچھا ہے، اس سے یہ ہو گا کہ جو مقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو انشاء اللہ حاصل ہو گا، اور ثواب توہر حال میں ملے گا، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الذُّغَاءُ هُوَ الْيَبَادَةُ" دعا بذات خود عبادت ہے۔

### تعویذ کرنے کو اپنا مشغلہ بنالینا

ہذا اگر کسی شخص کو ساری عمر جھاڑ پھونک کا طریقہ نہ آئے، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یقیناً اس کا یہ عمل اس تعویذ اور جھاڑ پھونک سے بد رجھا افضل اور بہتر ہے۔ ہذا ہر وقت تعویذ گندے میں لگے رہنا یہ عمل سنت کے مطابق نہیں۔ جوبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس حد تک ثابت ہے اس کو اسی حد پر رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر کبھی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھاڑ پھونک کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہر وقت اس کے اندر انہاک اور غاؤ کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنالینا کسی طرح بھی درست نہیں، بس، تعویذ گندوں کی یہ حقیقت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

### روحانی علاج کیا ہے؟

اب لوگوں نے یہ تعویذ گندے، یہ عملیات، یہ وظیفے، اور جھاڑ پھونک ان کا نام رکھ لیا ہے "روحانی علاج" حالانکہ یہ بڑے مغالطے اور دھوکے میں ڈالنے والا نام ہے، اس لئے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا،

یا اصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک شخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً بغض پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام ”روحانی علاج“ ہے، لیکن آج اس تعویذ گذارے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مقابلے والا عمل ہے۔

### صرف تعویذ دینے سے پیر بن جانا

اور اگر کسی شخص کا تعویذ گذارہ اور جھاڑ پھونک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا تو اس شخص کے مقتنی اور پرہیزگار ہونے کی دلیل نہیں، اور نہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص دینی اعتبار سے مقتدی بن گیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں تاثیر رکھ دی ہے، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا، تاثیر حاصل ہو جائے گی۔ یہ بات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوگ یہ دیکھ کر کہ اس کے تعویذ بڑے کارگر ہوتے ہیں، اس کی جھاڑ پھونک بڑی کامیاب ہوتی ہے، اس کو ”پیر صاحب“ بنالیتے ہیں، اور اس کو اپنا مقتدی قرار دیتے ہیں، چاہے اس شخص کی زندگی شریعت کے احکام کے خلاف ہو، چاہے اس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی احتیاج کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔

### ایک عامل کا وحشت ناک واقعہ

میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک وحشت ناک منظر دیکھا، وہ یہ کہ ایک

مسجد میں جاتا ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں ایک عامل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ باہر لوگوں کی دور ویہ بی قطار تگی ہوتی ہے، اور عامل صاحب مسجد سے باہر نکلے، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ کھول دیے، اور پھر پیر صاحب نے ایک ایک شخص کے منہ کے اندر تھوکنا شروع کر دیا، ایک شخص داہنی طرف، پھر باہمیں طرف کے منہ میں تھوکتے، اس طرح ہر شخص کے منہ میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جا رہے تھے، اور پھر آخر میں کچھ لوگ بالٹیاں، ڈو گئے اور جگ لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ پیر صاحب اس کے اندر تھوک دیں، تاکہ اس کی برکتیں اس کو حاصل ہو جائیں۔ یہ بات اس حد تک اس لئے پہنچی تھی کہ اس کے تعویذ گندے کا رآمد ہوتے تھے۔

## حاصلِ کلام

خدا کے لئے اس معاملے میں اپنے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کریں، راستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فرمایا۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور مانگتا ہے، کہ یا اللہ: میرا یہ کام کرو یعنی، اس سے بہتر کوئی تعویذ نہیں، اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ اور یہ جھاڑ پھوک اور یہ تعویذ کوئی عبادت نہیں، بلکہ علاج کا ایک طریقہ ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا،

یہی و جہے کہ اس کی اجرت لینا، دینا بھی جائز ہے، اگر یہ عبادت ہوتی تو اس پر اجرت لینا جائز نہ ہوتا، کیونکہ کسی عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں، مثلاً کوئی شخص تلاوت کرے، اور اس پر اجرت لے تو یہ حرام ہے، لیکن تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے۔ بہرحال، اگر واقعہ ضرورت پیش آجائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حدود و قیود سے آگے بڑھنا، اور ہر وقت انہی تعویذ گندوں کی فکر میں رہنا یہ کوئی سنت کا طریقہ نہیں، اور حدیث شریف میں یہ جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے جو جہاڑ پھونک نہیں کرتے اس حدیث کے ایک معنی تو میں نے بتا دیے کہ اس سے زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی جہاڑ پھونک مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جہاڑ پھونک ہے اس میں بھی غلوٰ اور مبالغہ، اور اس میں زیادہ انشماک بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ آدمی اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھے، اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہی بہترین طلاح ہے، اس کے نتیجے میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی، جو اس حدیث کا میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کا مصدق بنادے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلا حساب و اغلى نصیر فرمادے۔ آمين

و آخر دعوا انا ان الحمد لله رب العالمين

# ترکیہ کیا چیز ہے؟

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدحبلیم



طبع و ترتیب  
میرزا شفیع

میهن اسلامک پبلیشورز

"میرزا شفیع" نام

**مقام خطاب :** جامع مسجد بیت المکرم  
**گلشن اقبال کراچی**

**وقت خطاب :** بعد نماز عصر تا مغرب

**اصلاحی خطبات :** جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

## ”تَزْكِيَّة“ کیا چیز ہے؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَوَّكِلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدا  
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
أَلْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -  
أَمَّا بَعْدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝  
وَالَّذِينَ هُمْ غَنِيٌّ عَنِ اللُّغُوٍ مُغْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِلرَّزْكَوَةِ فَيُعْلَوْنَ ۝ (سورة المؤمنون: ۱-۲)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
الشاهدin والشاكرin والحمد لله رب العلمين

تہبید

بزرگان محترم و برادران عزیزان! سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفسیر  
اور تشریح کافی عرصہ سے چل رہی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے  
کہ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ  
تعالیٰ کو ایک مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مومن  
بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ  
ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام  
کریں گے ان کو فلاح حاصل ہوگی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو  
ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

### تین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں  
میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت الحمد للہ بیان ہو چکی۔  
دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغو اور بے ہودہ اور فضول کاموں میں  
نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت بے فائدہ کاموں میں صرف کرنے کو پسند نہیں  
کرتے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد للہ تفصیل

سے ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرمائی:

**وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ فَعُلُونَ۔**

اس آیت کی تشریع کرتے ہوئے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکوٰۃ بھی بڑا ہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمیع میں تفصیل سے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اس آیت کا دوسرا مطلب عرض کرنا ہے۔

### آیت کا دوسرا مطلب

عربی زبان کے اختیار سے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی بھی مسئلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو میں صحیح لفظ نہیں ملتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ ”زکوٰۃ“ کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ”یہ وہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاکی سے جسم کی پاکی مراد نہیں، کیونکہ جسم کی پاکی کے لئے عربی زبان میں ”طہارت“ کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے ”اخلاق“ کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں ”زکوٰۃ“ اور ”ترکیہ“ کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت: **وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ فَعُلُونَ۔** کا ترجمہ یہ ہو گا کہ ”یہ وہ لوگ

ہیں جو اپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اخلاق کے اندر جو گندگیاں اور نجاستیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیر ہے۔

### حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چار مقاصد

لیکن اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بیان فرمائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا کام آپ کے سپرد کئے گئے؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قرآن کریم نے چار مقامات پر ان کاموں کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَعْلُمُ أَغْلِيْهِمْ أَيْتَكَ وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ وَالْحِكْمَةُ  
وَيُرَى كَيْهُمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيْزُ الْحَكِيمُ ○

(سورۃ البقرہ، آیت ۱۲۹)

اس آیت میں سب سے پہلا کام یہ بیان فرمایا: يَعْلُمُ أَغْلِيْهِمْ أَيْتَكَ۔ یعنی ہم نے آپ کو اس لئے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا: وَيُعْلَمُهُمُ الْكِتَبُ۔ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کو لوگ براہ راست سمجھ نہیں

سکیں گے۔ تیرا کام یہ بیان فرمایا: وَالْحِكْمَةُ۔ اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، دانتا کی اور عقل مندی کی باتوں کی تعلیم دیں۔ چوتھا کام یہ بیان فرمایا: وَيُنَزَّلُ إِلَيْهِمْ۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تذکیرہ کریں اور ان کو پاک صاف اور پاکیزہ بنائیں۔

### تذکیرہ کی ضرورت کیوں؟

اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں تذکیرہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آگیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہایہ تم کام کافی نہیں، ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال و اخلاق کو پاکیزہ بنائیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھادیا اور اس کا مطلب سمجھادیا اور حکمت کی باتیں بتادیں پھر یہ اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو پاک صاف کریں؟

### تحیور یکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعد ٹریننگ ضروری ہے

اس کا جواب سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات جان لیں کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں، ان کی ایک نظریاتی اور تحیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتادیا، اس کو "تعلیم" کہا جاتا ہے، لیکن دنیا کے کسی فن کو

سمجھنے کے لئے مختص نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی عملی تربیت اور عملی ٹریننگ نہ دی جائے۔ آپ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لینے سے آپ ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے میڈیکل سائنس کا پورا کورس پڑھ لیا اور نظریاتی طور پر سمجھے بھی لیا کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کر لیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں نہیں گے، آپ ڈاکٹر اس وقت نہیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر تربیت لے لیں کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے اور کس طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوائیں تجویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آپ یہ تربیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ علاج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ وہ یونیورسٹیاں جو میڈیکل سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تعلیم مکمل کرانے کے بعد ہاؤس جاپ کو لازمی قرار دیتی ہیں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ یونیورسٹی میں جو پڑھا تھا وہ نظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاپ کیا جا رہا ہے یہ تربیت اور ٹریننگ

### آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کاموں کے لئے دنیا میں بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی نظریاتی تعلیم بھی دیں اور یہ

بھی بتائیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں اور ان کو پاکیزہ بنانیں۔ یہ چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوبصورتی اس انسان کے اندر بھی سراہیت کر جاتی ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔

### اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ: وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ كُوْهَةٌ فَعَلُوْنَ ۝ دوسری تفسیر کے لحاظ سے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر جسم کو گندگی سے پاک کرنا ہو تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر کپڑے کو گندگی سے پاک کرنا ہو تو اس کو پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے اور ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا انکو پانی سے دھو دیا جائے؟ یا ان اعمال کو غسل دیدیا جائے؟

### ”دل“ انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب سمجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس عمل کا سرچشمہ اور اس کا  
طبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے دل میں اس عمل  
کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے وہ عمل سرزد ہوتا ہے مثلاً آپ جمع  
کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو پہلے آپ کے دل میں یہ  
ارادہ پیدا ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد  
میں جانا چاہئے اور جا کر نماز ادا کرنی چاہئے، لہذا پہلے ارادہ پیدا ہوا اور پھر اس  
ارادے میں پختگی آئی اور طبیعت میں جو سُتی پیدا ہو رہی تھی، اس سُتی کا مقابلہ  
کر کے اس ارادے کو پختہ کیا اور پختہ ارادے کے نتیجے میں آپ کے پاؤں  
مسجد کی طرف چلنے لگے، اگر آپ پختہ ارادہ نہ کرتے تو آپ کے پاؤں مسجد کی  
طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے تو اس کے ہاتھ پاؤں بے  
ارادہ حرکت کر سکتے ہیں، لیکن جب تک انسان کے اندر عقل اور شعور موجود  
ہے، اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ  
کوئی عمل نہیں کر سکتا، چاہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ  
انسان کے اعمال کا سرچشمہ انسان کا ”دل“ ہے۔

### دل میں لطیف قوتیں رکھی گئی ہیں

یہ ”دل“ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ  
خون کا لمحزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لمحزا کے ساتھ پچھے لطیف قوتیں  
وابست کر دی ہیں، وہ قوتیں نہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قوتیں  
کو شیفت کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ قوتیں اس دل کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔

چنانچہ اس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ یہ کام کرلوں اور فلاں کام کرلوں، یہ "خواہشیں" دل میں پیدا ہوتی ہیں، اسی دل میں "ارادے" پیدا ہوتے ہیں، اسی دل میں "جذبات" جنم لیتے ہیں، اسی دل میں "غصہ" پیدا ہوتا ہے، اسی دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، اسی دل میں دنیا بھر کی "امتنکیں" پیدا ہوتی ہیں، اسی دل میں "صدمة" آتا ہے، اسی دل میں "غم" پیدا ہوتا ہے، اسی دل میں "خوشی" آتی ہے، یہ سب چیزیں دل کے ارد گرد گھومتی ہیں۔

### "دل" میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں

اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان سے اچھے اعمال سرزد ہوں گے اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان کے ارادے بھی خراب ہوں گے اور اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اس لئے انسان کی ساری بھلائی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں ایسی خواہشیں پیدا ہوں جو نیک ارادوں کو جنم دیں، جس کے نتیجے میں اچھے اعمال وجود میں آئیں اور ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔ انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھومتے ہیں۔

### "دل" کی اہمیت

اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ:

الَا إِنَّ فِي الْجَنَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ

الْجَسْدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسْدُ  
كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقُلُبُ -

خوب سن لو! پیشک جسم میں گوشت کا ایک لوقبرا ہے اگر  
وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، اگر وہ خراب  
ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے خوب سن لو کہ وہ  
لوچرا "دل" ہے۔ (التعاف السادة المتقين، ج ۳ ص ۱۵۲)

"دل" بڑی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی  
بھی اس پر موقوف ہے اور باطن کی اچھائی اور نیاتی بھی اس پر موقوف ہے،  
جسمانی صحت کا "دل" پر موقوف ہونا تو ہر انسان جانتا ہے کہ جب تک یہ "دل"  
ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ "دل" انسان کی  
پیدائش سے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مرتبے دم تک اس کا کام جاری  
رہتا ہے، اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوتی، کبھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس  
کو کبھی آرام نہیں ملتا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہترے ۲۷ مرتبہ پورے  
جسم میں خون پھینکتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کو اس کام سے کبھی آرام نہیں  
ملتا، جبکہ دوسرے اعضاء کے کاموں میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو  
آرام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آدمی سور ہا ہے تو سوتے وقت آنکھوں کو آرام مل  
گیا، کانوں کو آرام مل گیا، جسم کے دوسرے اعضاء کو آرام مل گیا، لیکن سونے کی  
حالت میں بھی دل اپنا کام کر رہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی  
دل کا کام جاری رہتا ہے، اس لئے کہ جس دن اس دل نے آرام کر لیا، اس دن

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی ختم ہے۔

### جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے اور تکریس و توانا ہے تو سارا جسم تو انہے اور جس دن یہ بیمار ہو جائے، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ:

غیت بیماری چوں بیماری دل  
یعنی کوئی بیماری دل کی برابر نہیں، یہ تو دل کی ظاہری حالت تھی۔

### ”دل“ کا ارادہ پاک ہونا چاہئے

دل کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جو لطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیجے میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہیں تو پھر انسان کے اعمال بھی پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، اگر ایک عمل بظاہر دیکھنے میں اچھا نظر آ رہا ہے، نیک عمل نظر آ رہا ہے، لیکن دل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کو جنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل بھی پاک نہیں ہے۔

## نیک ارادے کی مثال

مثلاً اس وقت ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمع پڑھنے کے لئے جمع ہیں، نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھا عمل ہے، اگر آپ کے دل نے آپ سے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعییل کرنے میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اگر اس ارادے سے عمل کیا تو وہ عمل اچھا ہے اور نیک ہے لیکن اگر دل نے یہ ارادہ کیا کہ میں نماز جمعہ اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں میں شہرت حاصل کروں کہ یہ آدمی بڑا نیک نمازی ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، بڑا مقنی پرہیزگار ہے، مسجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو اچھا ہے لیکن ارادہ غلط ہے، خواہش غلط، دل نے غلط راستہ سمجھایا، اس لئے یہ عمل بھی اکارت اور بے کار ہو گیا۔ اسی لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمادی ہے جس کہ اگر یہ قلب نیک ہے اور یہ صحیح قسم کے جذبات پیدا کر رہا ہے اور صحیح ارادے پیدا کر رہا ہے تو پیشک تمہارے سارے اعمال درست ہیں، لیکن اگر یہ قلب نیک نہیں ہے اور یہ غلط راستے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط ہیں، چاہے وہ اعمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

## دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہر حال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اچھے جذبات پیدا ہوں صحیح ارادے پیدا ہوں اسی کا نام "تذکیرہ" ہے، کیونکہ "تذکیرہ" کے معنی ہیں

اپنے قلب کو غلط خواہشات اور غلط جذبات اور غلط ارادوں سے پاک کرنا۔ جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذمے فرض ہیں، اور جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و اجتب قرار دئے ہیں اور کچھ اعمال حرام اور ناجائز قرار دئے ہیں۔

### ”اخلاص“ دل کا حلal عمل ہے

مثلاً ”اخلاص“ دل کا عمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص دل میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص دل میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی بیکار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں گے تو یہ عمل بھی بیکار ہو گا۔

### ”شکر“ اور ”صبر“ دل کے اعمال ہیں

اسی طرح نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ دل کا عمل ہے، آدمی دل سے یہ تصور کرے کہ میں اس نعمت کے لاکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اس کو ”شکر“ کہتے ہیں، یہ

دل کا عمل ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح ”صبر“ ہے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ناگوار واقع پیش آجائے یا تکلیف پہنچ جائے، تو اس تکلیف پر انسان دل میں یہ سوچے کہ اکر جے مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضائل پر راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، اس کا نام ”صبر“ ہے اور یہ دل کا کام ہے، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں جو انسان کے دل سے متعلق ہیں، ان کو ”اخلاق“ کہا جاتا ہے اور یہ ”اخلاق“ حاصل کرنا فرض ہے۔

### ”تکبیر“ دل کا حرام فعل ہے

کچھ ”اعمال“ دل سے متعلق ایسے ہیں جو حرام ہیں، مثلاً تکبیر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ”ہم چوں ماوگرے نیست“، یعنی مجھے جیسا کوئی نہیں ہے اور سب لوگ میرے آگے حقیر اور ذلیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ ”تکبیر“ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہاں اوقات یہ تکبیر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں، بہت ناقیز ہوں، ناکارہ ہوں، لیکن اس کے دل میں تکبیر بھرا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبیر دل کی باطنی بیماری ہے اور حرام ہے اور یہ تکبیر اتنا شدید حرام ہے کہ خزری کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے، شراب پینے سے بھی زیادہ حرام ہے، اس لئے کہ تکبیر کرنے والا درحقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبڑیاں اور بڑائی صرف اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بہر حال تکمیر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

### ”ترکیہ“ اسی کا نام ہے

اسی طرح ”حد“ دل کی بیماری ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کو کوئی نعمت مل گئی، اب اس نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہو رہی ہے کہ یہ نعمت اس کو کیون مل گئی، یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے اور یہ حرام ہے۔ بہر حال جس طرح ظاہری اعمال میں سے کچھ اعمال فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، اسی طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات خواہشات اور ارادے ہیں، ان میں سے کچھ فرض و واجب ہیں اور کچھ حرام ہیں، ان میں سے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقرار رکھے اور جو گناہ اور حرام ہیں، ان سے اپنے دل کو بچالے، اس کا نام ”ترکیہ“ ہے اور اسی کا نام ”قلب کو پاک کرنا“ ہے، لہذا اس آیت میں فرمایا کہ:

وَالَّذِينَ هُمُ الْمُذَكُورَةُ فِي الْعُلُونَ ۝ وہ لوگ جو ترکیہ کرنے والے ہیں۔ یعنی اپنے قلب کو ناپاک اخلاق سے، ناپاک جذبات سے، ناپاک ارادوں سے پاک کرتے ہیں، وہ لوگ ”فلاح یافتے“ ہیں۔

### تصوف کی اصل حقیقت

آپ حضرات نے ”تصوف“ کا لفظ پار بار سنا ہوگا، آج لوگوں نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اس کو ایک ملغوبہ بنادیا ہے،

حالانکہ تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے جذبات صحیح ہونے چاہئیں، تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہئیں، تمہاری خواہشات صحیح ہونی چاہئیں اور ان کو کسی طرح صحیح کیا جائے۔ یہ اعمال ”تصوف“ کے اندر بتائے جاتے ہیں۔ ”تصوف“ کی حقیقت بس اتنی ہے، اس سے آگے لوگوں نے جو باتیں تصوف کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقهاء ظاہری اعمال مثلاً نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، نیج و شراء، نکاح و طلاق کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں

### خلاصہ

بہر حال! قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تذکیرہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

**وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ فَيَعْلُمُونَ**

اس کی مزید تشریح انشاء اللہ آئندہ جمیعون میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

**وَآخِرُ دَعْوَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**



# اچھے اخلاق کا مطلب

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حبیب علمیم



طبع و ترتیب  
مذوبہ لذتیں

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰/۔ یاتھ پورا گاری

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

## ”اچھے اخلاق“ کامل طب

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْعَى إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَعْوَذُ كُلُّ عَلَيْهِ وَنَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرِّورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً  
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

أَمَا بَعْدُ! فَأَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ فَدُّ الْفَلَخِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغَرِّضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِلزَّكُوْةِ فَعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ

خَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ۝

(سورة المؤمنون: ۱۔ ۷)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین

تمہید

بزرگان محترم اور برادران عزیز! سورۃ المؤمنون کی ان ابتدائی آیات  
میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی  
طرف سے فلاح یافتہ ہیں، ان صفات میں سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے  
وہ ہے

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ قَانِعُونَ ۝

جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، پہلی تفسیر کے مطابق اس  
آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں  
اور دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن فلاح یافتہ  
ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،  
اپنے اخلاق کو گندگیوں اور ناپاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اچھے اخلاق  
کو اختیار کرنے والے ہیں۔

## ”دل“ کی کیفیات کا نام ”اخلاق“ ہے

اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں ”اخلاق“ کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، مسکرا کر اس سے مل لے اور نرمی سے بات کر لے، ہمدردی کے الفاظ اس سے کہے، بس اسی کو ”اخلاق“ سمجھا جاتا ہے۔ خوب سمجھے لیجئے کہ شریعت کی نظر میں ”اخلاق“ کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے، اس مفہوم میں پیشک یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، اظہار محبت کرے اور اس کے چہرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ محتکو کرے، لیکن ”اخلاق“ صرف اس طرزِ عمل میں مختصر نہیں بلکہ ”اخلاق“ درحقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے، دل میں جو جذبات اٹھتے ہیں اور جو خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام ”اخلاق“ ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار پاتیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات پیدا ہوتی ہوں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پروش پانے والے جذبات کو اعتدال پر لائے۔

## فطری جذبات کو اعتدال پر رکھیں

اس کی تھوڑی تشریع یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں کچھ فطری جذبے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان سے خالی نہیں، مثلاً "غصہ" ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ، لیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلاً اپنی عزت نفس کا خیال کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، بلکہ مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ سب فطری جذبات ہیں جو انسان کے اندر اللہ بتارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے اور ان کو اعتدال پر رکھنے کا نام ہی "حسن اخلاق" ہے، اگر یہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آدمی کے اخلاق پاکیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، لیکن اگر اخلاق اعتدال سے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال سے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

### "غصہ" فطری جذبہ ہے

مثلاً "غصہ" ایک فطری جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں پیدا فرمایا ہے، یہ غصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر "غصہ" بالکل نہ

ہو تو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہو سلتا، مثلاً ایک شخص پر دوسرا شخص حملہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز حملہ کر رہا ہے مگر وہ شخص خاموش بیٹھا ہے، اس کو غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا "غضہ" اعتدال پر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور یہ شخص خاموش بیٹھا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے تو یہ بے غیرتی ہے، بے جمیتی ہے اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے جمیتی کا کوئی جواز نہیں۔

### یہ بے غیرتی کی بات ہے

آج عراق میں ہمارے بھائیوں پر وجشت اور بربریت والا حملہ ہو رہا ہے اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جونہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، ان کو اپنی فضائی حدود اور زمینی حدود فراہم کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور بے جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپنے عزیز واقارب اور گھروں کا دفاع کرے، اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے ہم ندھرب لوگوں کا دفاع کرے اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع کرے، اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ رکھا ہے۔

## غصہ کو صحیح جگہ پر استعمال کریں

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

**فَاتَّلُوا الَّذِينَ يَلْوُ نَكْمَمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِي نَكْمَمٍ غِلْظَةً۔**

(سورۃ التوبۃ، آیت نمبر ۱۲۳)

یعنی جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان سے لڑائی کرو اور ان کفار کو یہ محسوس ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے دلوں میں غصہ ہے اور سختی ہے۔ لہذا اگر یہ غصہ صحیح جگہ پر ہے تو یہ غصہ قابل تعریف ہے اور اچھے اخلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پر ڈاکو حملہ آور ہو گئے اور میرے پاس اتنی طاقت بھی ہے کہ میں ان پر حملہ کر سکوں لیکن میں خاموش بیٹھا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بے غیرت ہوں، شریعت کو یہ مطلوب نہیں، لہذا اگر انسان غصہ کو صحیح حدود میں استعمال کرے اور صحیح جگہ پر استعمال کرے تو یہ غصہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

## ”غصہ“ حد کے اندر استعمال کرے

میں نے دو لفظ استعمال کئے، ایک یہ کہ غصہ کو صحیح جگہ پر استعمال کرے اور غلط جگہ پر استعمال نہ کرے، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر غصہ کرے۔ دوسرے یہ کہ غصہ کو حدود میں استعمال کرے، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد غلط

راتے پر جاری ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، اس کے اعمال خراب ہو رہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور نصیحت کی، اس نے آپ کی نصیحت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آنا صحیح محل صحیح جگہ پر ہے، غلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعۃ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولاد پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ بچے کی چڑی ادھیز دی، اس صورت میں غصے کا محل تو صحیح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاوز کر کے آگے بڑھ گیا اور اعتدال سے نکل گیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اچھے اخلاق میں داخل نہیں۔

### ”غضہ“ کی حدود

لبذا غصہ کے اندر دو باتیں ہوئی چاہئیں، ایک یہ کہ غصہ صحیح جگہ پر آئے اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے یہ کہ جب غصہ کا اظہار ہو تو وہ غصہ حد کے اندر ہوتے حد سے کم ہو اور نہ حد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت نے متعین کر دی ہیں، ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دوتاکہ بچپن سے اس کو نماز کی عادت پڑ جائے، سات سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے، اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کو نماز پڑھنے کی عادت نہ پڑی ہو تو اب اس کو نماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے، یہ حد مقرر کر دی یہ فرمادیا کہ چہرے پر مت مارو چہرے پر مارنا، جائز نہیں اور

اسی مارنہ مارو جس سے جسم پر نشان پڑ جائے۔ یہ حدود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر سمجھا کر واضح کر دیں۔ یہ تو ایک مثال ہے۔

### ”عزت نفس“ کا جذبہ فطری ہے ۔

ایک اور مثال لے لیجئے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان کے میری عزت ہوئی چاہئے۔ اس حد تک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ مرا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے نہیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت شخص کا جذبہ بالکل نہ ہو تو وہ انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے۔ لیکن اگر ”عزت نفس“ کا جذبہ حد سے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذلیل ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ”تکبیر“ آگیا، اس لئے کہ ”تکبیر“ کے معنی ہیں ”اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا“۔

### ”عزت نفس“ یا ”تکبیر“

آپ کو بے شک یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ ہوں، لیکن کسی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، یہ خیال لانا جائز نہیں،

مثلاً آپ امیر ہیں، آپ کے پاس کوئی بنتگلے ہیں، آپ کے پاس بینک بیلننس ہے، آپ کے پاس دولت ہے اور دوسرا شخص غریب ہے، ٹھیکے پر سامان بچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے گھروالوں کے لئے روزی کماتا ہے، اگر آپ کے دل میں یہ خیال آگیا کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے، میری عزت اس کی عزت سے زیادہ ہے، میں اس سے افضل ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، اس کا نام ”تکبیر“ ہے، یہ ”عزت نفس“ کا جذبہ اپنی حد سے آگے بڑھ گیا۔

### ”تکبیر“ مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ ”جذبہ“ اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ”تکبیر“ سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر ”تکبیر“ ہے، حالانکہ ”عزت نفس“ قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں وہ ”تکبیر“ بن گئی اور تکبیر بننے کے نتیجے میں وہ مبغوض بن گئی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں:

**الْكَبِيرُ يَا دِيَانِي۔** - (مشکوہ، باب انعصب والکبر) بڑائی تو تھا سیرا حق ہے۔

”الله اکبر“ کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے:

**وَلَهُ الْكَبِيرُ يَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** (الجاثیة۔ ۷۳)

اسی کے لئے ہے بڑائی آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔

لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے بڑا ہوں، میرا درجہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہوں اور دوسرے سب لوگ مجھ سے

چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو یہ "ستکبر" کی حد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اس کا انعام دنیا میں بھی نہ رہا ہے اور آخرت میں بھی نہ رہا ہے۔

### "ستکبر" کو سب لوگ حقیر سمجھتے ہیں

دنیا کے اندر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ "ستکبر" اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو نہ اسمجھتی ہے، اس لئے کہ جو شخص ستکبر ہو اور لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ یہ شخص ستکبر ہے اور اس کے اندر ستکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کلے گا بلکہ ہر شخص اس کو نہ رکھے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں "ستکبر" کی مثال دی ہے، فرمایا کہ "ستکبر" کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لئے وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے اور ساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بہر حال! دنیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق "ستکبر" کو نہ اسمجھتی ہے، اور چھوٹا سمجھتی ہے چاہے اس کے دبدبہ اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے، لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔

## ”امریکہ“ انتہائی تکبیر کا مظاہرہ کر رہا ہے

آج ”امریکہ“ تکبیر میں نمودا اور فرعون کے درجے تک بلکہ اس نے بھی آجے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ذر کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم اور خود اس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر ”تکبیر“ کو نفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں تکبیر کے لئے بڑا خت عذاب ہے۔

## ”تکبیر“ دوسری بیماریوں کی جڑ ہے

اور یہ ”تکبیر“ اسکی بیماری ہے جس سے بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، اسی ”تکبیر“ کے نتیجے میں ”حد“ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ”بعض“ پیدا ہوتا ہے۔ لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو ان تمام بیماریوں سے پاک کریں، ان کو جب غصہ آئے تو صحیح جگہ پر آئے اور جب غصہ کو استعمال کریں تو حدود کے اندر استعمال کریں، وہ اگر اپنی عزت کا تحفظ کریں تو حدود کے اندر کریں، تکبیر نہ کریں اور جو کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں، کسی کام میں دکھاؤ اور نام و نمود نہ ہو، اسی کا نام ”اخلاق کی صفائی“ اور ”اخلاق کا تزکیہ“ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

**وَالَّذِينَ هُمْ لِلنَّزَكَةِ فَاعْلُمُونَ ۝**

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لئے تعریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔

### **”اخلاق“ کو پاک کرنے کا طریقہ ”نیک صحبت“**

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خوب سمجھہ بیجھے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے ”نیک صحبت“، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے اخلاق کو معتدل بنادیا، صحابہ کرام نے اپنے آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور یہ تبیر کر لیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئی گے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہربات مانیں گے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، ان کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، بعض اوقات خود صحابہ کرام اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذبہ پیدا ہوا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم فلاں کام اس حد

تک کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں کر سکتے، چنانچہ رفتہ رفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں منتقل ہو گئے۔

### زمانہ جاہلیت اور صحابہ کا غصہ

زمانہ جاہلیت میں صحابہ کرامؓ کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد سے گزرنا ہوا تھا، ذرا سی بات سے آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات چالیس چالیس سال تک وہ جنگ جاری رہتی، لیکن جب وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایسے سوم بن گئے کہ پھر جب ان کو غصہ آتا تو صحیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا، جتنا غصہ آتا چاہئے اتنا ہی غصہ آتا، اس سے آگے نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کانپ جاتے تھے کہ اگر ان کو غصہ آگیا تو ہماری خیر نہیں، اسی غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیادین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سر قلم کروں گا۔ لمبا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چینچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کو انتساب کا ذریعہ بنادیا اور دل میں اسلام گھر کر گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی

پوری جان چھاود کر دی۔

## حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غصہ میں اعتدال

پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت انٹھائی تو وہ غصہ جو انتہاء سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت سے اور اپنے فیض صحبت سے ایسا معتدل کر دیا کہ جب آپ خلیفہ اور امیر المؤمنین بن علیؑ تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے رعایا کا بہت بڑا مجمع تھا، اس مجمع میں آپ نے ایک سوال کیا تو جواب دینے کے لئے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگر تم نیڑھے چلو گے تو ہم اپنی تکوار سے تمہیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس شخص سے کہی جا رہی ہے جس کی آدھی دنیا پر حکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصہ ان کے زیر حکومت تھا، آج اس زمین پر پچیس حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ پر عمر بن خطاب کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کئے ہیں کہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غصہ جو زمانہ جاہلیت میں ضرب المثل تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

## اللہ تعالیٰ کی حدود کے آگے رک جانے والے

اور جب غصہ کا صحیح موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آتا تو قیصر و کسری بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لرزہ براندام ہو جاتیں اور ان پر کچھی طاری ہو جاتی، آپ نے ہی قیصر و کسری کے ایوانوں کو تخت و تاراج کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا وہاں نہیں آیا اور جہاں جس درجے میں غصہ آنا تھا، وہاں اسی درجے میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

**كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حَدُودِ اللَّهِ**

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدود کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتاب میں پڑھ کر اور قلمغہ پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اخلاق کو محظی مزٹی اور مصنفی کر دیا۔

## اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو

پھر یہی طریقہ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں یعنی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتاؤ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نیارشاد فرمایا:

**يَنَّا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا خُوْنُوا مَعَ الصَّدِيقِينَ -**

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہو تو ان کی صحبت اختیار کرو جن کے اخلاق درست ہیں۔ لہذا اپنی صحبت درست کرو اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو اللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوبی ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق صافی اور محلی ہو چکے ہوں۔ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

**وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**



# دلوں کو پاک کریں

شیخ الاسلام حضرت مولانا شفیق محمد تقی عثمانی صاحب علم



مطبوعہ تحریک  
میر عبید الدین شہنشہن

مہین اسلامیک پبلیشورز

مکتبہ تحریک، بادشاہی

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم  
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

## دلوں کو پاک کریں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِيهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَرَبِّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً  
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا -

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ هُمْ خَشِقُونَ ۝  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِلرَّزْكَوَةِ فَعِلُوْنَ ۝

(سورة المؤمنون: ۲۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمین

### تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے  
تلاوت کیں ان کی تشریع پچھلے چند جمیعوں سے بیان کی جا رہی ہے۔ ان آیات  
میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مومنوں کے لئے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ ان کے  
اخلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سمجھنے  
کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ  
بنائیں۔ اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اعمال و افعال ہیں، وہ  
سب اس کے اخلاق پر مبنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ  
اچھے اخلاق کے نتیجے میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برسے  
اخلاق کے نتیجے میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہو جائیں تو اس کی  
ساری زندگی درست ہو جائے اور اگر اس کے اخلاق خراب ہو جائیں تو ساری  
زندگی خراب ہو جائے۔

### دل کی اہمیت

اسی بات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں

فرمایا:

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لِمُضْفَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ  
 الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ  
 أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (التحاف السادة المتقين، ج ۳ ص ۱۵۲)

یعنی جسم میں ایک لوٹھرا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ لوٹھرا انسان کا دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح نہ ہوں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔

### فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے

ہمارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپنے اردوگرد جو فساد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ فساد درحقیقت اس بات پر ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات پیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردوپیش میں اتنا بڑا فساد نظر نہ آتا، کوئی ظالم دوسرا پر ظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات ہیں، جو گندگیوں اور تجاستوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عربیانی اور فناشی میں اس لئے جلتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ

فاشی اور عربیانی کے کام نہ کرتا، اسی چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

## اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور پر معاشرت کے ماحول میں اور معاشرت کے ماحول میں اور سیاست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل الساقین میں پھینکا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہر شخص یہ شکوہ کر رہا ہے کہ رشوت کا بازار گرم ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، حرام کھانے کے لئے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیرما در سمجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح شیرما در حلال ہے، اسی طرح رشوت کا مال بھی حلال ہے، دھوکے کا مال بھی حلال ہے، جھوٹ کے ذریعہ آنے والا مال بھی حلال ہے، بلکہ بسا اوقات وہ لوگ جو اپنی ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، وعظ و تقریر بھی سنتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کار و بار میں داخل ہوتے ہیں اور روپے پیسے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تحریز نہیں کرتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ پیسہ جو میں کمار ہا ہوں، یہ حلال کا لقرہ ہا ہوں یا حرام کمار ہا ہوں، یہ لقہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ حلال کا لقرہ ہے یا حرام کا لقرہ ہے، بلکہ آج پیسے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں، جھوٹا سر شیکیت بنانے میں کوئی خوف نہیں، جھوٹی شہادت دینے میں کوئی عار نہیں، جب روپے پیسے کا معاملہ آ جاتا ہے تو ساری دین داری اور

سارا تقویٰ دھرارہ جاتا ہے۔

### روپیہ حاصل کرنے کی دوڑ

آج یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سینٹا جائے سینٹ لو، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس پس آنا چاہئے، اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دینی پڑے تو رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جھوٹے کاغذات بنانے پڑیں تو جھوٹے کاغذات بناؤ، اگر جھوٹی گواہی دینی پڑے تو جھوٹی گواہی دو، جو کچھ کرتا پڑے، کر گزرو، لیکن پس آنا چاہئے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، وہ درحقیقت اس ذہنیت اور اس فکر کا نتیجہ ہے۔

### اللہ اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجہ

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت دل پر غالب نہ ہوتی اور آدمی دنیا کے حصول کے لئے حلال و حرام کو ایک نہ کرتا۔

### عراق پر امریکہ کا حملہ

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان واقعات کی وجہ سے نوٹے ہوئے ہیں جو "عراق" میں گزشتہ دونوں پیش آئے، سقوط بغداد کا الناک سانحہ جو پیش

آیا، اس پر ہر مسلمان کا دل مر جایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بھی بجا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ملک پر ظلم اور تشدد کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری دنیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلم میں ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوس اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

## قرآن کریم کا ارشاد اور اس پر عمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد کئے ہیں اور اس دنیا میں یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیسا نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ صدیوں سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پشت ذالا ہوا ہے، قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشاد یہ ہے کہ:

وَأَعِذُّوا لَهُمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطٍ  
الْخَيْلُ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ۔

(سورۃ الانفال: آیت نمبر ۶۰)

یعنی تم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بناسکتے ہو اور قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل آرو۔ آج سے چودو سو سال پہلے اس کے ذریعہ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم اسی قوت حاصل کرو جس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر

اور اپنے دشمن پر رعب طاری کر سکو۔ اس حکم کا تقاضہ یہ تھا کہ پوری امت مسلمہ جہاں کہیں بھی ہو، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے، اپنے دفاع کے لحاظ سے، ساز و سامان کے لحاظ سے اور معیشت کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط بنائے۔

## مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں

لیکن بحیثیت مجموعی اگر امت مسلمہ پر نظر ذاتی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین پر اتنی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے وسائل کبھی نہیں رہے، آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی دولت عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنی دولت کبھی ان کے پاس نہیں رہی، دنیا کے عظیم ترین وسائل پیدا اوار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے خلطے میں عطا فرمائے ہیں، تلیں یہاں لکھتا ہے، گیس یہاں نکلتی ہے، سونا یہاں لکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فرمائی ہیں اور سارے کردار زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ پورے کردار زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔

## ذاتی مفاد کو سامنے رکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کر اندرونی شیا تک سلسلہ اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

کہ ایک زنجیر ہے جس میں مسلمان پر دئے ہوئے ہیں، درمیان میں صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، نہر سوئز ان کے پاس ہے، آبنائے پاسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اگر مسلمان متحد ہو کر اپنی اس طاقت کو استعمال کریں تو غیر مسلموں کے ناک میں دم کر دیں، لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہر شخص اپنے ذاتی مقاد کو سوچ رہا ہے، اس ذاتی مقاد کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندر رسوئے کی ریل چیل ہے، جن کے یہاں تک بے تحاشہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا داروددار دریے ممالک سے درآمد کئے ہوئے سامان پر رکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی ان ممالک میں ایسے افراد تیار کئے جاتے ہیں جو اس دور کے لحاظ سے ساز و سامان تیار کر سکیں اور مناسب اسلحہ تیار کر سکیں۔

### ہم لوگ خود غرضی میں بنتلا ہیں

یہ سب کچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے وسائل پر خود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسے ملنے چاہیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں یا حرام طریقے سے ملیں، وقتی طور پر میں خوش ہو جاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤ پر لگانا پڑ جائے، چاہے اس کی خاطر

بھے اپنی پوری ملت کو بیچتا پڑ جائے، لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدہ حاکروں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور حکام سے لے کر عوام تک ہر شخص اس بیماری میں جتنا ہے۔

### ہمارے ملک میں کرپشن

آج ہر شخص کرپشن کا روتار درہ ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت کے کسی دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنتا جب تک پیسے نہ کھلانے جائیں، دفتروں میں لوگ حرام کھانے کے لئے من کھولے بیٹھے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص کر رہا ہے، لیکن جب اس کو موقع مل جائے تو وہ بھی اپنا من کھولے بغیر نہیں رہتا اور وہ اس سے زیادہ رشوت لے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت کر رہا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ کرپشن کا مظاہرہ کرے گا، جوئے سر شیفکیث بنائے گا، جوئی شہادتیں دے گا، یہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔

### دنیا میں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے

پیشک یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بنائی ہے، لیکن یہ دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس میں محنت اور جدوجہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماو اور اس کے وسائل کو اپنی بہتری کے لئے اور امت کی بہتری کے لئے استعمال کرو، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہر انسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر دولت کا لئے اور دوسروں پر ڈا کر ڈالے اور اپنی تجویزیاں بھرتا

چلا جائے اور ملک و ملت کو فراموش کر دے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ دیرہ اختیار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے، دشمن سے کیا شکوہ کریں، دشمن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کرے، شکوہ اور مغلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنالیا ہے کہ دنیا کی جو قوم چاہے آ کر ہم پر ڈاکر ڈالے اور خوشی کے تازیانے بجا تے ہوئے یہاں سے چلی جائے۔

### اللہ تعالیٰ کا ایک اصول

یاد رکھئے! یہ صورت حال اس وقت تک نہیں بدلتے گی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
بِأَنفُسِهِمْ۔ (سورۃ الرعد: آیت نمبر ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلتے کے لئے تیار نہ ہو۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے چودہ سو سال پہلے فرمادیا تھا کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلتے گی، اگر تم اپنے کرتوں کی وجہ سے پڑ رہے ہو تو پھر تمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوں نہیں چھوڑ دے گے۔

ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟

آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دعائیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگا گیا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح

ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان مختزل ہو رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ شکوہ اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کیوں نہیں کی؟

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، جب تم اپنی حالت بد لئے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان درنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں تمہیں چار پیسے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہو اور رسول کو بھی بھلا بیٹھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

نَسُوا اللَّهَ فَتَسْيِيْهُمْ (سورة التوبۃ : آیت نمبر ۷۷)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔

### ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤ، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھو تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، لہذا ہم نے اللہ کو نہیں بھلا کیا۔

بات دراصل یہ ہے کہ لوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین سمجھ لیا ہے اور زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کو دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ دین کے بے شمار شے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، یہ سب دین کے شے ہیں، اب ہم نے نماز تو پڑھ لی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ بھی دیدی، عمرے کے خوب سیر سپاٹے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھسل جاتے ہیں اور تاویل شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

آج ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلانے ہوئے ہیں، خاص طور سے اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں اسلام کو اور اسلامی احکام کو فراموش کیا ہوا ہے۔

### ہم دشمن کے محتاج بن کر رہ گئے ہیں

اسی کا ایک شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے یہ طاقت جمع نہیں کی اور پھر یہ طاقت کیسے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سارے وسائل رشوت کی نذر ہو رہے ہیں، کرپشن کی نذر ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر وقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری مدد کرو۔ اب اگر وہ دشمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو پھر اس کا لٹکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کا محتاج بنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنارکھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی ان پر موقوف ہو گئی ہے، لہذا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خود اپنے کو ذلیل کیا۔ اگر آج بھی ہمارے پاکستان جیسے ملک کے وسائل تھیک تھیک دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ استعمال ہوں اور ہم یہ تہبیہ کر لیں کہ ہم اپنی چادر کی حد تک پاؤں پھیلائیں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کا صحیح استعمال کریں گے تو پھر ہمیں بھیک کا پیالہ لے کر دوسروں کے پاس جانا نہیں پڑے گا اور ہم خود کفیل ہو جائیں گے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی قوت جمع کریں گے، لیکن اس ملک میں رشوت اور کرپشن نے ہماری زندگی کو بتاہ کیا ہوا ہے۔

### اس واقعہ سے سبق لو

بہرحال! یہ جو کچھ ہوا (کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے دہان کی حکومت کو تخت و تاراج کر دیا اور خود قابض ہو گیا) اس پر صدمہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ تہبیہ کر لے کہ آج کے دن کے بعد کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گا، کوئی حرام پیسہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، رشوت کا پیسہ نہیں آئے گا، دھوکے کا پیسہ نہیں آئے گا، جھوٹ کا پیسہ نہیں آئے گا، سود کا پیسہ نہیں آئے گا، گھر میں جو پیسہ آئے گا وہ حلال کا اور محنت کا پیسہ آئے گا۔ میں آپ

حضرات سے اللہ کے بھروسے پر یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس دن قوم نے یہ تہبیہ کر لیا تو انشاً اللہ کوئی دشمن ان پر فتح یا بُنیس ہو سکے گا۔

### معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ جب سارا معاشرہ ہی خراب ہے تو اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی کر بھی لی تو ہم اکیلنے پورے معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنان کیا بھاڑ پھوڑ سے گا، ہماری تبدیلی سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہو گا؟

یاد رکھنے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اگر ہر آدمی یہی سوچتا رہے تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کم از کم ایک براہی اس دنیا سے دور ہو جاتی ہے، جب ایک براہی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ماحول میں روشنی پیدا فرمادیتے ہیں۔

### آپ یہ تہبیہ کر لیں

بہر حال! ایک طرف تو یہ ہو کہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ تہبیہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامَ کی پیروی کر دیں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافرمانی جس نے سارے معاشرے میں فساد چایا ہوا ہے، نہیں

کروں گا یعنی کر پش نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل صحیح طور پر استعمال ہونے لگیں تو اس ملک کو بھی ترقی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آجائے گی تو کسی دشمن کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ڈالے۔

### امریکہ کی بزدی

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سپر طاقت (امریکہ) جس کی طاقت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک (عراق) جس پر سالہا سال سے پابندیاں عائد تھیں جو دوا کی ایک پڑیا بھی باہر نہیں ملکوں اسکتا تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تھا ان کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے اسکیلئے حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سودیت یونین (روس) موجود تھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کا مقابل ختم ہو گیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان خہتوں پر حملہ کرنے اور ان پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔

### ایسے حملے کب تک ہونگے؟

لہذا جب تک امت مسلمہ اپنے آپ کو ایسا مقابل نہیں بنائیں گے کہ

دشمن جب اس پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر جھر جھری آجائے، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا کہ کل افغانستان پر حملہ کیا اور آج عراق پر حملہ کر دیا اور آئندہ کل کسی اور مسلم ملک پر حملہ کر دے گا۔ لیکن اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کر لے کر:

**وَأَعْدُوا لِهِمْ مَا أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ۔**

یعنی جو قوت تم تیار کر سکتے ہو وہ قوت تیار کرو۔ تو پھر انشاء اللہ دشمن ہمارے اوپر بری نگاہ ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ یہ قوت اس کرپشن کے ماحول میں تیار نہیں ہو سکتی، یہ قوت اس وقت تیار ہو گی جب ہم اپنے آپ کو بدلتے کی کوشش کریں گے اور اس کرپشن کو ختم کریں گے۔

**دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کرلو**

اور یہ ساری خرابی اس لئے پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں دنیاوی عیش و عشرت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں خود غرضی اور مقادیر پرستی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ:

**وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّزْكَوَةِ فَعَلُونَ۔**

یعنی فلاح پانے والے مومنین اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک صاف بنانے والے ہیں، اگر تم اپنے آپ کو ان بیماریوں سے پاک صاف بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

**وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

# تصوف کی حقیقت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذہب خلیفہ



مطبوع و ترتیب  
مذہب خلیفہ

میہمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰، بیانات نگارخانہ، کراچی۔

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## ”تصوف“ کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْأَلُهُ مَا شَاءَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَغْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِي  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَةٌ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَرَبَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدا  
غَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

أَمَا بَعْدُ! فَاغْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَيْرٌ  
وَالَّذِينَ هُمْ غَنِيٌّ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِلرَّزْكَوَةِ فَعَلُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

خفظُونَ ○ أَلَا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا ملَكُتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ○

(سورة المؤمنون: ۱۔ ۷)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العلمین

تہمید

بزرگان محترم، برادران عزیز! سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان  
کئی جمیع سے چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے  
و، منین کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چوچی آیت میں ایک صفت یہ  
بیان فرمائی کہ فلاحت پانے والے مومن وہ ہیں جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے  
ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب  
ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس  
دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی جمع گز رہ گئے، آج اس کا تمہرے عرض کرنا  
ہے۔ پھر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلی آیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔

### باطن سے متعلق لازم احکام

جبیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ظاہری  
زندگی سے متعلق کچھ احکام ہم پر لازم کئے ہیں مثلاً نماز، روز وغیرہ، اسی طرح

ہمارے باطن سے متعلق بھی کچھ احکام اللہ تعالیٰ نے ساند فرمائے ہیں، مثلاً یہ کہ انسان کے دل میں "اخلاص" ہونا چاہئے، ریا کاری نہیں ہونی چاہئے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہئے، انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہئے، جب "صبر" کرنے کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے، جب شکر کا موقع آئے تو "شکر" کرنا چاہئے۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔

### باطن سے متعلق حرام کام

ای طرح باطن سے متعلق بہت سے کام حرام ہیں، مثلاً "حد" کرنا حرام ہے، "تکبیر" کرنا حرام ہے، کسی سے "بغض" رکھنا حرام ہے، ریا کاری اور نام و نمود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیزہ بنانا بھی ایک مومن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف اتنی بات کافی نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ لی اور رمضان کے روزے رکھ لئے اور زکوٰۃ ادا کر دی، موقع ہوا تو حج کر لیا اور عمرہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں "تکبیر" نہ ہو، "حد" نہ ہو، ریا کاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، یہ سب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہونی ضروری ہیں۔

## یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزیں محض ستائیں پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتیں، محض تقریریں سن لینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں اور ان کے دلوں سے بداخلاتی کی گندگیاں دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں ”تصوف“ جس علم کو کہا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد تربیت اخلاق ہی ہے۔ آپ نے ”فقہ“ کا لفظ سنا ہوگا، ”فقہ“ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں ظاہری اعمال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز کس طرح درست ہے اور کس طرح فاسد ہو جاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام ہیں؟ زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں؟ حج کے کیا احکام ہیں؟ یہ سب باتیں علم فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں اور ان احکام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔

### ”علم تصوف“ کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق سے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ”علم تصوف“ میں بتایا جاتا ہے۔ آج ”علم تصوف“

کے بارے میں لوگ افراط و تغیریط میں جتنا ہو گئے ہیں، بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ”تصوف“ کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں اور قرآن کریم اور حدیث مبارک میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ ”تصوف“ کو اختیار کرنا پدعت ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارک نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہی ”تصوف“ کا موضوع ہے، اس لئے یہ ”تصوف“ قرآن کریم اور حدیث مبارک کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے ”تصوف“ کو غلط معنی پہنادیئے ہیں، ان کے نزدیک ”تصوف“ کے معنی ہیں مراثیت کرنا، کشف حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزدیک اسی کا نام ”تصوف“ ہے، اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں تو تصرف کر لئے۔

### تصوف کے بارے میں دو تصرف

ایک تصرف تو یہ کیا کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ”صوفی“ کہلاتے ہیں مگر ساتھ میں بھنگ بھی پی رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ بھنگ مولویوں کے لئے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لئے حلال ہے، اس لئے کہ ہم تو بھنگ پی کر اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، خلط عقیدے، مشرکانہ خیالات داخل کر دیئے اور اس کا نام ”تصوف“ رکھ دیا۔

دوسرا تصرف یہ کیا کہ مرید پیر کا غلام ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو پیر بنالیا تو اب وہ پیر چاہے شراب پینے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیر صاحب اپنی جگہ برقرار ہیں، مرید کے ذمے ان کے قدم چونما لازم ہے اور ہر چند روز کے بعد اس پیر کو نذرانہ پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیر صاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ بالله العظیم۔

”تصوف“ کا یہ تصور نہ قرآن کریم میں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس تصور کا کوئی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے۔

### تصوف کا اصل تصور

جبکہ ”تصوف“ کا اصل تصور ”اخلاق“ کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی تبع سنت، صحیح علم رکھنے والے، صحیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے کرانی ہو اور اس سے جا کر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مریبی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال و اخلاق کو درست کرنے والے ہیں، اس لئے آپ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ پیری مریدی صحیح تھی اور قرآن و حدیث کے مطابق تھی۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اچھے اخلاق

اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

### إِنَّمَا بَعُثْتُ لِأَتُّمِمَ مَكَارِمَ الْأُخْلَاقِ

یعنی مجھے تو بھیجا ہی اس لئے ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق درست کروں اور اس کی تحریک کروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح کریں گے، ہمارا دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آرہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن آپ جو کچھ فرمائیں گے، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا مخلوقی اور مصنفوی فرمادیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسمان کے نیچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدا نہیں ہوئے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ کسی بھی وقت اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے تھے، اگرچہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا نے ان کو کندن بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم صحیح راستہ سے بھٹک نہ جائیں۔

### حضرت فاروق اعظم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب ہوتے۔ جنہوں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اے عمر! میں جب معراج پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار محل دیکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے، میرا دل چاہا کہ میں محل کے اندر جا کر دیکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی کہ تم بڑے غیور آدمی ہو، اس لئے تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہونا چاہئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو روپرے اور فرمایا کہ "اوْ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارٌ" یا رسول اللہ! کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیرت کروں گا۔

### حضرت فاروق اعظم اور خوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست بتارکھی تھی کہ مدینہ میں فلاں فلاں شخص منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو قسم دے کر فرمایا کہ خدا کے لئے بتا دو کہ منافقین کی جو فہرست حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں

ہے۔ یہ ذرا س لئے لگا ہوا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بیشک میری حالت نھیک ہو گی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہو گئی ہوا اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہو گئے ہوں، اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ ہر وقت اور ہر آن ان کو یہ ذر لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرابی نہ آجائے۔

### حضرت فاروق اعظمؓ کا پر نالہ توڑنا

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اس وقت بارش ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرانے سے مسجد نبوی کے صحن میں پانی گرا رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرانے سے مسجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہئے، اس لئے کہ مسجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر اپنے گھر کے پرانے لے گرایا کریں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے، مسجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پر نالہ گرنا نھیک نہیں ہے، یہ کہہ کر آپ نے وہ پر نالہ توڑ دیا۔

## میری پیشہ پر کھڑے ہو کر پر نالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے اور پوچھا کر امیر المؤمنین! آپ نے یہ پر نالہ کیوں تو زد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ پر نالہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کا مسجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پر نالہ لگانا جائز نہیں تھا، اس لئے میں نے تو زدیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین! آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پر نالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگایا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے لگائے ہوئے پر نالے کو آپ نے تو زدیا؟ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنائے میں آگئے اور پوچھا اے عباس! کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کرو کر میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیشہ پر کھڑے ہو کر ابھی اسی پر نالے کو درست کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ رہنے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہو گئی، میں پر نالے کو لگوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس وقت تک چیز نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کر پر کھڑے ہو کر اس پر نالے کو نہ لگا

دے، اس لئے کہ ابن خطاب کی یہ مجال کیسے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیئے ہوئے پر نالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پر سوار کر کے اس پر نالے کو درست کرایا۔

### ایسا کیوں کیا؟

ایسا کیوں کیا؟ یہ اس لئے کیا تاکہ دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا حکم چلتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس عمل کے ذریعہ اس خیال کو ختم فرمایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہر حال ہر لمحان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اخلاق درست ہوں۔

### حضرت ابو ہریرہؓ اور نفس کی اصلاح

حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں اور بے شمار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے تھے، صوفی منش بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بھرین کا گورنر بنادیا گیا، اب دن میں یہ وہاں کا انتظام کرتے اور شام کو روزانہ یہ معمول تھا کہ سر پر لکڑیوں کا گھٹھر سر پر رکھتے اور نجع بازار سے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا نفس بڑا شری ہے، مجھے اندر یہ شر رہتا ہے کہ حاکم بننے کی وجہ سے کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے، لہذا

میں اپنے نفس کو اپنی حقیقت بار بار دکھاتا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔

## ہمارا حال

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے نفس کی اصلاح کرنے اور اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنے دل سے تکبر، حسد، بعض، عداوت اور نفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدی کئے، یہی کام صوفیاء کرام کرتے ہیں، جو لوگ ان کے پاس اپنی اصلاح کے لئے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیاء کرام ان کے اخلاق کی گمراہی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر تکبیر پیدا ہو رہا ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب ہیں یا ہمارے اندر تکبیر پیدا ہو رہا ہے، خود پسندی آرہی ہے، ریا کاری پیدا ہو رہی ہے، نام و نامور پیدا ہو رہا ہے یاد نیا کی محبت دل میں بیٹھ رہی ہے، ان باتوں کا خیال شاذ و نادر ہی کسی کو آتا ہو گا، بلکہ صبح سے شام تک زندگی کے اوقات گزر رہے ہیں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ انسان کو خود پست نہیں چلتا کہ میرے اندر یہ برائی ہے، چنانچہ تکبیر کرنے والے کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں تکبیر کر رہا ہوں، تکبیر کرنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ تم تکبیر کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تو تکبیر نہیں کرتا، کوئی تکبیر یہ نہیں کہے گا کہ میں متکبیر ہوں یا کوئی حسد کرنے والا یہ نہیں کہے گا کہ میں حسد کرتا ہوں، حالانکہ اس کے دل میں تکبیر اور حسد بھرا ہوا ہے۔

## کسی معانیج کی ضرورت

اور یہ بڑا یہ ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں، اس لئے کسی معانیج کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کو پچھاتا ہو کہ یہ بیماری اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کرے۔ اسی کا نام ”تصوف“ اور پیری مریدی ہے اور ”تصوف“ کی اصل حقیقت بھی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا:

يَا يُهَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يُؤْنَثُوا مَعَ

الصَّدِيقِينَ۔

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اور تقویٰ اختیار کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ممکن لوگ ہیں ان کی محبت اختیار کرو۔ جب تم ان کی محبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنک تمہارے اندر منتقل ہو گا، ان کا مزاج تمہاری طرف منتقل ہو گا اور جب تمہارے اندر کوئی بیماری پیدا ہو گی تو وہ پہچان لیں گے اور پہچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیماری کا علاج کریں گے اور تمہاری اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔

### اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ

بہر حال! قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق کسی اللہ والے سے جو علم صحیح رکھتا ہو اور عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور بظاہر قیمع سنت ہو اور خود اس نے اپنی

اصلاح کسی بزرگ سے کرائی ہو، اس سے رجوع کرنا اور پھر اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرنا، اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے۔

### یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں

آج لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے پاس جائیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت علامہ شبی اور حضرت معروف کرخی رحمہم اللہ تعالیٰ، اب یہ حضرات تو موجود نہیں

سے خداوندا! یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں

کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے

لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

### مصلح قیامت تک باقی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ حکم صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ حکم قیامت تک

کے لئے ہے، لہذا اسی آیت میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

### ہر چیز میں ملاوٹ

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل ملاوٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، گندم میں ملاوٹ، بھنگ میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی، لیکن اس ملاوٹ کی وجہ سے کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ فلاں چیز میں ملاوٹ ہے، اس لئے فلاں چیز نہیں کھائیں گے، مثلاً بھنگی اور تیل میں ملاوٹ ہے، لہذا آئندہ بھنگی اور تیل استعمال نہیں کریں گے بلکہ گریں استعمال کریں گے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بھی تلاش اور جستجو کرتے ہیں کہ کہاں پر بھنگی اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، پھر وہاں سے حاصل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جستجو کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ختم نہیں ہوئے۔

### جیسی روح دیے فرشتے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرنے کے لئے جنید بغدادی چاہئیں، مجھے تو شیخ عبدال قادر جیلانی چاہئیں تو یہ حماقت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح دیے فرشتے، جیسے تم

ہو، اسی معیار کے تہارے مصلح بھی ہوں گے۔ لہذا آج پر اُنے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں ملے گا، لیکن ایسا مصلح ضرور مل جائے گا جو تہاری اصلاح کے لئے کافی ہو جائے گا، اس نے کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس تک پہنچنے کی کوشش کرو اور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ انشاء اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔

### خلاصہ

خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ والوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو اور اپنی اصلاح ان سے کرنے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

وَآخِرُ دُعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



# نکاح جنسی تسلیکین کا جائز ذریعہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیم



جستجو و تحریر  
مذکورہ مادوں کی

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰۰، دیات نمبر ۲۰۴

تعام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

## ناح جنسی تسلیمان کا جائز ذریعہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَغْوُذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً  
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا -

أَمَا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَشِيعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغَرِّضُونَ ۝  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعُلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَرْوَاحِهِمْ

أَوْ تَامَلَكُتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۝

(سورة المؤمنون: ۸-۹)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين

### تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! یہ سورۃ مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کو فلاح نصیب ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دار و مدار ان صفات پر ہے جو ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، لہذا ہر مومن کو یہ صفات حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمیع میں متفرق طور پر ہوا ہے، نمبر ایک: نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبر دو: لغو باقوں سے پرہیز کرنا، تجبر تین زکوٰۃ ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا بیان الحمد للہ بقدر ضرورت ہو چکا ہے۔

### چوتھی صفت

چوتھی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور سوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔

### جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے، وہ مسئلہ ”انسان کی جنسی خواہش کی تسلیم“ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ہر انسان میں ایک جنسی جذبہ موجود ہے اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہر انسان کو اپنی مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تسلیم کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

### دو حلال راستے

اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس کے لئے دور استے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ یہ دور استے تو حلال ہیں اور ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے راستے حرام ہیں اور ایک مومن کے لئے واجب ہے کہ وہ ان سے پرہیز کرے۔ دو حلال راستوں میں سے ایک تو نکاح کا راستہ کر انسان نکاح کر کے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسلیم کرے، یہی راستہ اس کے لئے حلال ہے بلکہ باعث اجر و

ثواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کنیز یں ہوا کرتی تھیں جن کو باندی اور لوٹدی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں جنگ کے دوران جو لوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں یہ طریقہ جاری تھا اور آپ کے بعد بھی صد یوں تک چاری رہا، ان کنیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آقاوں کے لئے حلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیز مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے یہ دو طریقے تو حلال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تجھیل کے لئے جو بھی طریقہ اختیار کرے، وہ حرام ہے اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد سے گزرنے والا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔

### اسلام کا اعتدال

اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توازن کو منظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش سے مستثنی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑا ولی، اس خواہش سے مستثنی نہیں، ہر ایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کو نسل انسانی کی بروشورتی کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل اسی خواہش کے نتیجے میں بڑھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبے کو حرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبے کو تسلیم دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راستے سے اس جذبے کی جتنی تسلیم چاہو کرو، وہ تمہارے لئے حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راستے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راستے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر پابندی عائد کر دی ہے، ان کو ناجائز قرار دیا ہے اسلام میں یہ اعتدال اور توازن ہے۔

### عیسائیت اور رہبانیت

”عیسائیت“ کو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں راہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو ”رہبانیت“ کہا جاتا ہے، عیسائی راہبوں کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دو اور ان کو خیر باد کہدو، جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو گا لہذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بد مزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت حاصل کر دے گے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے، اسی طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو بھی دیانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی تجھیں کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو گا، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کو نہیں چھوڑو گے، یہوی پھوس کو نہیں چھوڑو گے اور

دنیا کے سارے کار و بار کو نہیں چھوڑ دے گے، چنانچہ انہوں نے خانقاہیں بنائیں، ان خانقاہوں میں راہبیوں کی کھیپ کی کھیپ آ کر تھیم ہوتی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں۔

### عیسائی راہبہ عورتیں

آپ نے عیسائی "ثُن" کا نام سنایا، "ثُن" وہ عورتیں ہوتی تھیں جوں نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر دیتی تھیں اور شادی سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف "راہب" مرد ہیں جنہوں نے یہ قسم کھارکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، دوسری طرف "ثُن" خواتین ہیں جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کو نہیں کچلیں گے اور جب تک خواہشات کو نہیں دبا جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا۔

### یہ فطرت سے بغاوت تھی

لیکن یہ نظام فطرت سے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے سے مستثنی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتائیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت سے بعید

ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغاوت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خاتما ہیں جن میں راہب مرد اور نن عورت میں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خانقاہیں فاشی کے اڑے بن گئے، اس لئے کہ وہ مرد اور عورت میں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہوتا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو راستے سمجھائے۔

### شیطان کی پہلی چال

چنانچہ شیطان نے ان کو یہ راستے سمجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کچلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہو رہی ہو اس وقت میں اس نفس کو کچلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوں گے، لہذا ایسا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کرے میں رہیں۔ ایک کرے میں رہنے کے نتیجے میں خواہش زیادہ ابھرے گی، اور اس کو زیادہ سختی سے دبانا پڑے گا، اور زیادہ سختی سے دبائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ راضی ہوں گے، چنانچہ مرد و عورت میں ایک کرے میں رہنا شروع ہو گئے۔

### شیطان کی دوسری چال

اس کے بعد شیطان نے یہ سمجھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کھلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرد اور راہب عورت ایک چار پائی پرسو میں، اس کے نتیجے میں جب خواہش زیادہ پیدا ہوں تو ان کو دبائیں اور کچلیں تو اللہ تعالیٰ اس

سے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی پر سوئے تو نتیجے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بالآخر یہ ساری خانقاہیں فاش کے اڑے بن گئے، عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان را ہوں کی خانقاہوں میں پیدا ہوئی۔ یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

### نکاح کرنا آسان کر دیا

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہذا اس تسلیمان کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ ”نکاح“ ہے، پھر اس نکاح کو شریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی چیز کا خرچ نہیں ہے، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مسجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں یہوی اور دو گواہ مجلس کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے سامنے لڑکا یہ کہدے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکی جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا یا لڑکی یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔

### عیسائی مذهب میں نکاح کی مشکلات

جبکہ عیسائیوں کے یہاں ”کلیسا“ کے باہر نکاح کرنا ممکن نہیں، لہذا اگر دو مرد عورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاد و قبول کر لیں تو عیسائی مذهب

میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی مذہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب مرد و عورت کلیسا میں جائیں اور وہاں کے پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری کو فیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوا�ا جائے بلکہ دو مرد و عورت دو گواہوں کے سامنے ایجاد و قبول کر لیں اور مہر مقرر کر لیں بس نکاح منعقد ہو گیا۔

### خطبہ واجب نہیں

البتہ سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لے، کسی کو بلا نے کی ضرورت نہیں، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوا�ا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاد و قبول کرایا جاتا ہے، تاکہ سنت کے مطابق نکاح ہو جائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے، نہ مسجد میں جانا شرط ہے، نہ کسی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو تو انسان کے پاس اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے حلال راستہ موجود ہو۔

### شادی کو عذاب بنالیا

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا جب تک اس

کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کو تقریب کے لئے پیسے چاہئیں، مہندی کی رسم کے لئے پیسے چاہئیں، منگنی کی رسم کے لئے پیسے چاہئیں اور ان تمام کاموں میں اتنے آدمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور چاہئے اتنے کپڑے چاہئیں، ولیم کی دعوت ہونی چاہئے، اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور مار بنا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

### حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور شادی

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں ہی اسلام لے آئے یہ ان میں نے ہیں۔ اور ان وس خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبخبری سنائی کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ یہ بھرت کے بعد مدینہ منورہ آگئے ایک دن یہ مسجد نبوی میں تماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زرد رنگ کی خوبیوں کی ہوئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ زرد رنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، اس نکاح کے وقت خوبیوں کی تھی۔ یہ اس خوبیوں کا نشان ہے۔ اب دیکھئے کہ نکاح کر لیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا یا تک نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی شکایت نہیں کی کہ وہ بھائی! تم نے اسکیلے اسکیلے نکاح کر لیا، تمیں بلا یا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک ہزار آدمی نہ بلائے جائیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جسی خواہش کی تسلیم کے لئے غلط راستے خلاش نہ کرے۔

### حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور نکاح

ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہیتے صحابی اور لاڈلے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رسیلِ تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے نکاح کر لیا ہے، آپ ﷺ نے پوچھا کہ تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا یا یہو سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میری چھوٹی چھوٹی ۶ بہنیں ہیں۔ ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو بحمد اللہ، اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر میں کسی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دلکھ بھال نہ کر سکتی، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تھہارے نکاح میں برانت دے۔

یہاں بھی نہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا یا، اور نہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت کی کہ تم نے اسکیلے اسکیلے نکاح کر لیا اور ہمیں نہیں پوچھا۔ نکاح کے بارے میں اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندوؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں اپنے نکاح اور شادی میں اتنی رسیس بڑھائی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کر رہ گیا ہے اور ایک عام آدمی کے لئے نکاح کرتا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ بہر حال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح کرو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعہ سے پوری کرو۔ اسلام نے رہبانتیت کی دعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو بالکل چھوڑ دو۔

### جاائز تعلقات پر اجر و ثواب

پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ ہیں۔ ایک مرتب ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی بیوی کے ساتھ جوازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ پیشک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالیٰ کے حکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حلال طریقہ پر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور یہ عمل تمہارے لئے اجر کا سبب بنتا ہے۔

### نکاح میں تاخیر مت کرو

اور پھر اس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے آئی آزادی دیدی کہ میاں یہودی پر اس بارے میں اوقات کی کوئی پابندی نہیں، مقدار کی اور عدد کی کوئی پابندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں، اس طرح سے اس میں آزادی دیدی تاکہ انسان ناجائز راستے تلاش نہ کرے۔ اسی لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جو تمہیں پسند ہو، تمہیں ظاہری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو، اور تمہارا کفو بھی لگتا ہو تو اس رشتے کو قبول کرلو اور پھر فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑکیاں رشتوں کے انتظار میں ٹیکھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں، لیکن جہیز کا انتظار ہے اور اس بات کا انتظار ہے کہ باپ کے پاس لاکھوں روپے آجائیں تو پھر وہ اپنی بیٹی کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے۔ لیکن وہ لڑکیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات ناجائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس سے فتنہ و فساد پھیلے گا۔ معاشرے کے اندر آج دیکھے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

ارشاد سے روگردانی کے نتیجے میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔

## ان کے علاوہ سب حرام راستے ہیں

بہر حال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسلیم کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ برپادی کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچو اور جو لوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی حد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دھوت دینے والے ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت و عصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف ان پر اکتفا کریں ان پر عمل کئے بغیر ان کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں فلاح حاصل ہو سکتی ہے۔

## اختتام

اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قرآن و سنت نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت و عصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

**وَآخِرُ ذَمْرَةٍ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

# آنکھوں کی حفاظت کریں

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذہب ظلیم



منسٹرو اور ترتیب  
مذہب ناگزیر

مہین اسلام ک پبلیشورز

۱۰۰ ریاستہ آزادہ گاراپی

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم  
مکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

## آنکھوں کی حفاظت کریں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْعَى إِلَيْهِ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شُرُورِ أَنفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّداً  
عَبْدَهُ وَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى  
إِلَيْهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا -

أَمَا بَعْدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَشِقُونَ ۝ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرَضُونَ ۝  
وَ الَّذِينَ هُمْ لِلرَّزْكَوَةِ فَيَعْلَوْنَ ۝ وَ الَّذِينَ هُمْ

لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ ○ إِلَّا عَلَى أَرْزَا جِهَمْ  
 أَوْ مَاءْلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلَوِّمِينَ ○  
 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَّوْنَ ○  
 (سورة المؤمنون: ۸-۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
 رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
 الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

### تہمید

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشتہ کئی جمیعوں سے فلاح یافتہ مومنوں  
 کی صفات کا بیان چل رہا ہے، تم صفات کا بیان تفصیل سے ہو چکا۔ چو تھی  
 صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مومن وہ ہیں جو اپنی  
 شرماگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ ان کے  
 ذریعہ جو شخص اپنی جنسی خواہش پوری کرے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اور جو  
 شخص ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ  
 حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، پچھلے جمعہ کو  
 عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں ہماری ہر جائز  
 خواہش کو تسلیم دینے کا صاف ستر اپاک راستہ موجود ہے۔ انسان کا جنسی  
 جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس جذبہ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قدغن کوئی  
 پابندی عائد نہیں فرمائی، لیکن یہ بتا دیا کہ اس جنسی جذبہ کی تسکین کا جائز راستہ

نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس راستے سے اس جذبہ کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاح سے ہٹ کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرتا چاہے تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے۔ فتنہ کا راستہ ہے اور یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔

### یہ مغربی تہذیب ہے

جن جن معاشروں میں نکاح سے ہٹ کر بغیر نکاح کے جنسی خواہش کی تسکین کا دروازہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے تباہی کا شکار ہوئے، آج مغربی دنیا یورپ اور امریکہ کی تہذیب کا دنیا میں ڈنکا بجا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے نکاح کے علاوہ دوسرے راستے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بیلوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے روپ کارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اسی فیصد آبادی حرام کی اولاد ہیں اور خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ فیلی سشم کا ستیا ناس ہو گیا۔ باپ بیٹی، ماں، بیٹی، بھائی، بھن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین چیخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت سے اپنے آپ کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے یہ اس لئے کہ قرآن کریم نے جوراستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو، اس کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کر لئے۔

## یہ جذبہ کسی حد پر رکنے والا نہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر یہ جنس خواہش کا جذبہ جائز حدود کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنتا ہے اور انسان کو بہت سے فوائد پہنچاتا ہے، لیکن جس وقت یہ جذبہ جائز حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ جذبہ ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ مٹنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اگر کوئی انسان ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کسی حد پر نہیں رکتا، کسی حد پر اسکو قرار اور چین نہیں آتا، وہ اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور کبھی اس کی پیاس اور بھوک نہیں ملتی، جیسے جو شخص استقاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پانی پی لے، اور ملکے کے ملکے اپنے پیٹ میں داخل کر لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بھجتی یہی صورت حال اس وقت ہوتی ہے جب جنسی جذبہ اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ پھر کسی حد پر رکتا نہیں ہے۔

## پھر بھی تسلیمان نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں یہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے سے جنسی خواہش کی تسلیمان شروع کی۔ لیکن پوری تخلیل نہ ہو سکی، پھر اور آگے بڑھے پھر بھی پوری تسلیمان نہ ہوئی اور پھر اور آگے بڑھے پھر بھی تسلیمان مکمل نہ ہوئی یہاں تک کہ اب صورت حال یہ ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسلیمان اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کسی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعد اس کو قتل بھی کریں۔

### حد سے گزرنے کا نتیجہ

مغربی دنیا کا یہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشرے نے محورت کو اتنا ستا کر دیا کہ قدم قدم پر عورت سے تسلیم حاصل کرنے کے ذریعے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی قدغن اور کوئی پابندی ان پر نہیں، لیکن جن ملکوں میں عورت اتنی سستی ہے انہی ملکوں میں زنا با مجرم کے واقعات ساری دنیا سے زیادہ ہیں وجد اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسلیم کر لینے کے بعد بھی نفس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردستی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبردستی کی انتہاء حد یہ ہے کہ جس عورت سے جنسی تسلیم حاصل کی جا رہی ہے اس کو اسی وقت میں قتل کرنا بھی جنسی تسلیم کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اب فکر رکھنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے بندھن سے ہٹ کر جنسی خواہش کی تسلیم کا دراستہ تلاش گزنا چاہتے ہیں۔ وہ حد سے گزرنے والے ہیں اور حد سے گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی حد پر قرار نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تمہارے لئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز راستے کی فضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسلیم کرے تو یہ نہ صرف جائز

ہے بلکہ اس پر اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ باقی سب راستے حرام کر دیئے۔

### پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے نجٹے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے پھرے بخادیئے ہیں کہ اگر ان پھروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گمراہی میں بٹلنا نہیں ہو سکتا، ان میں سے سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النظر سهم من سهام ابلیس۔ یعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی شیطان انسان کو اس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فاسد جذبات ابھرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بالآخر انسان کو عملی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔

### نگاہیں نیچے رکھیں

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

**فَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْكِفُوا**

**فُرُونَ جَهَنَّمَ۔** (سورۃ النور، آیت ۳۰)

آپ مؤمنین سے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، گویا کہ یہ بتلا دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، کسی

نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیرھی ہے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ العینان تزفیان، وزنا ہما النظر۔ یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے آنکھوں سے غیر محروم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا یہ زنا کی پہلی سیرھی ہے، شریعت نے اس پر پابندی عائد فرمادی ہے۔

### آج کل نظر بچانا مشکل ہے

آج کل کے محاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ نہیں ہے، چاروں طرف نتھے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ نگاہ کو نیچے رکھو اور اپنی نگاہ کا غلط استعمال نہ کرو۔ آج کافی جوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو نیچے رکھ کر اور چاروں طرف سے آنکھیں بند کر کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ کہیں بورڈ پر تصور یہ نظر آ رہی ہے اور کہیں اخبارات میں تصور یہ نظر آ رہی ہیں، کسی رسالے کو دیکھو تو اس میں تصور موجود، بازار سے کوئی چیز خریدو تو اس پر تصور یہ موجود ہے پر وہ عورتیں ہر جگہ ہاہر چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اس لئے نظر بن بچانا تو بڑا مشکل کام ہے۔

### یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرا اس پر غور کرو کہ یہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی مشین اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے جو پیدائش سے لیکر مرتے دم تک بغیر کسی پیسے اور

بغیر محنت کے یہ مشین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہو اس کے ذریعہ دیکھ لے جو چاہو لطف انھالو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس مشین کے اندر غور کرنے کی توفیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی جگہ میں کیا کارخانہ فٹ کر رکھا ہے، جو آنکھوں کے اسپیشلٹ ہیں، انہوں نے کا الجھوں، یونیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمر لگادی، لیکن اب تک یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کیا کارخانہ کیا ہے؟ اس کارخانے کے اندر کتنے پردے ہیں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کر رکھے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مفت میں مل گئی ہے، اس کے لئے کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں۔

### آنکھوں کی حفاظت کیلئے پیسہ خرچ کرنے پر تیار

جس دن آنکھ کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آجائے تو تمہارے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے، اور اگر خدا نہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے، لیکن میری بینائی مجھے واپس مل جائے تاکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں، میں اپنے بچوں کو دیکھ سکوں، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ سکوں۔ بینائی جانا تو درکنار بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آ جائے کہ میرزا نظر آنے لگے یا آنکھوں کے سامنے تمرے ناچھے لگیں یا آنکھوں کے سامنے حلقتے اور دائرے نظر آنے لگیں تو انسان گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور پھر آنکھوں کے اسپیشلٹ کے پاس بھاگتا ہے اور ہزاروں خرچ کرتا ہے کہ

کسی طرح میری آنکھوں کا یہ نقص دور ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو یہ دولت ملی ہوتی ہے اور مرتبے دم تک کام کرتی ہے نہ اس کی سرسری کی ضرورت، نہ اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت۔

### آنکھ کی پتلی کی عجیب شان

اور اس آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسان جب روشنی میں جاتا ہے تو اس کی آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے اور جب اندر ہیرے آتا ہے تو اس آنکھ کی پتلی کے پٹھے سکڑتے ہیں کیونکہ اندر ہیرے میں صحیح طور پر دیکھنے کے لئے اس کا سکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑ نے اور پھیننے کے عمل میں آنسان کی آنکھ کے پٹھے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور یہ کام خود بخود ہوتا ہے۔ اگر یہ کام انسان کے پرد کیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ جب تم اندر ہیرے میں جاؤ تو یہ بُن دبایا کرو اور جب روشنی میں جاؤ تو یہ دوسرا بُن دبایا کرو، تب تمہاری آنکھیں صحیح کام کریں گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی سمجھ میں یہ بات آتی اور کسی کی سمجھ میں نہ آتی اور غلط وقت پر بُن دبادیتا اور ضرورت سے زیادہ بُن دبادیتا تو خدا جانے اس آنکھ کا کیا حشر بناتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آنونیک سُنم اس آنکھ کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواں کے مطابق اس آنکھ کی پتلی پھیلتی بھی ہے اور سکڑتی ہے۔

### آنکھ کی حفاظت کا خدا تعالیٰ انتظام

اور یہ آنکھ اتنی نازک ہے کہ شاید پورے جسم انسانی میں اس سے زیادہ

نازک کوئی خیز نہ ہو۔ آپ کو تجربہ ہوا ہو گا کہ اگر انسان کی آنکھ میں ریت یا مٹی کا معمولی سازورہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آنکھ میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درد سے بے چین ہو جاتا ہے۔ اور یہ آنکھ انسان کے چہرے میں بالکل سامنے ہے کہ اگر انسان کے سامنے سے اس پر حملہ ہو یا کسی سے تصادم ہو تو اس کی چوت سب سے پہلے انسان کے چہرے پر پڑتی ہے، لیکن آنکھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو پہرے دار بُشدادیے یہ ماتھے کی حدی اور رخسار کی حدی، ان دونوں حدیوں کے قلع میں انسان کی آنکھ کو رکھ دیا تاکہ اگر چہرے پر کوئی چوت پڑے تو حدیاں اس کو برداشت کریں اور آنکھ محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پکوں کے دو پردے آنکھوں کے اوپر ڈال دیئے تاکہ کوئی گرد و غبار اس کے اندر نہ جائے، اگر کوئی مٹی یا گرد و غبار اذکر آئے گا تو یہ پلکیں اس کو اپنے اوپر لیں گی اور آنکھوں کو بچائیں گی۔ جب انتہاء ہو جائے تب جا کر آنکھ پر چوت پڑتی ہے ورنہ آنکھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ خود کار نظام بنادیا ہے۔ ان کے ذریعہ انسان کے چہرے کا حسن بھی ہے اور اس آنکھ کی نعمت کی حفاظت بھی ہے۔

### نگاہ پر صرف دو پابندیاں ہیں

یہ سب انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور اس انتظام کے لئے کوئی پیر نہیں مانگا کہ جب تم اتنے پیسے دو گے تو آنکھ ملے گی بلکہ یہ خود کار مشین پیدائش کے وقت سے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فرمایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چاہو، استعمال کرو، صرف چند جگہیں ہیں ان میں اس کو استعمال نہ کرنا، اس آنکھ کے ذریعہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اچھے مناظر کو

دیکھو، پاغات کو دیکھو، چلوں کو پھولوں کو دیکھو، دریاؤں اور شہروں کو دیکھو، پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیکھو۔ اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو، اور ان سے لطف اٹھاؤ۔ صرف دو چیزوں سے بچو، ایک یہ کہ کسی نامحرم عورت پر لذت لینے کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کسی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت دیکھو، بس آپ کے اوپر یہ دو پابندیاں ہیں، باقی سب کچھ دیکھنا تمہارے لئے حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو چتنا چاہو استعمال کرو۔

### اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، ساری کائنات کا نظام دکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام تھیں دے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگر کسی دن تمہاری آنکھ کا پردہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کسی دن تمہاری آنکھ کی بینائی رہے، اس وقت اگر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ بینائی تھیں واپس تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلاں فلاں چیزوں کو نہ دیکھو، تو جواب میں وہ شخص کہے گا کہ ساری زندگی ان چیزوں کو نہ دیکھنے کا بونڈ لکھوا لو، لیکن مجھے بینائی واپس دیدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھے سکوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے سکوں، میں اپنے گھر کو دیکھے سکوں۔ اس وقت تو بونڈ لکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا چکی ہے اور اب کے واپس آنے کا کوئی راست نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بونڈ لکھوانے بغیر تھیں یہ نعمت دے رکھی ہے۔ لیکن یہ نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعمال کرنے

کے لئے دی ہے صرف اس جگہ استعمال کرو۔

### نگاہ ڈالنا اجر و ثواب کا ذریعہ

اور اگر صرف اس جگہ پر استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال نامے میں نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب کے خزانے اکھتے ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے تو ایک نگاہ ڈالنے سے ایک حج اور ایک عمر کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شوہرا پنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور بیوی نے اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ نگاہ کو صحیح جگہ پر استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے ڈھیر لگا دیے۔

### نظر کی حفاظت کا ایک طریقہ

خدانہ کرے اگر آدمی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کو لذت لینے کی غرض سے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے زہر کے تجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔

آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دوز میں آنکھوں کو بچانا بڑا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈنے سے بھی ملتی نہیں آنکھوں کو پناہیں، کہاں جائیں؟ اور

کس طرح بچیں؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم یہ تصور کرو کہ آج اگر ہماری بینائی جاتی رہے اور پھر کوئی تم سے یہ کہے کہ تمہاری بینائی واپس مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ اس بینائی کو کسی نامرم کو دیکھنے میں استعمال نہیں کرو گے، اگر یہ پکاو دعہ کرو اور پختہ عہد کرو اور لکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے یا نہیں؟ کونا ملے گی۔ بتاؤ کیا تم اس وعدہ کرنے کے لئے تیار ہو گا اور کون انسان ہو گا جو یہ انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار ہو گا اور کون انسان ہو گا جو یہ کہے گا کہ اگر میں نامرم کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر مجھے بینائی نہیں چاہئے۔ کوئی انسان ایسا کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا۔ اگر تم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھنے کے لئے تیار ہو جاؤ گے تو جس مالک کریم نے وہ بینائی تم سے کوئی معابدہ کئے بغیر پہلے سے تمہیں وہ رکھی ہے اور بعد میں وہ مالک تم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعمال نہ کرو تو پھر تمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو یہ تصور کرو کہ اگر میں بدنظری کروں گا تو میری بینائی چلی جائے گی۔

### ہمت سے کام لو

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو انداھا ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرمادیا کہ:

مَنْ كَانَ فِيْ هَذِهِ أَخْمَنِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَخْمَنِ  
وَأَضَلُّ سَيِّلًا۔ (سورة الراء، آیت ۷۲)

لہذا انسان یہ عہد کر لے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عہد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو کھینچ لو، جب انسان اس ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔

### خلاصہ

بہر حال! اس نگاہ پر دو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ایک یہ کہ نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنا، اور دوسرے یہ کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کسی مسلمان پر پر حقارت کی نظر ڈالنا یہ بھی آنکھ کا گناہ ہے۔ ان دونوں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی بھی تیاری ہو جائے گی اور اگر یہ طریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مشین کو علی الاطلاق استعمال کر رہے ہیں، اس پر کوئی قید اور کوئی پابندی نہیں لگا رہے ہیں تو یہی آنکھ آپ کو جہنم کے گھرے میں لے جا کر ڈالے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنادے گی، اس لئے اس آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنکھ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مضمون ابھی باقی ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگی رہی تو اگلے جحد میں انشاء اللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



# آنکھیں بڑی نعمت ہیں

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مذبوب ظلیم



مشطب و ترتیب  
مرتبہ ناشرین

میمن اسلام ک پبلیشورز

۹۰، بیانت نگارہ، مکانی ۲۰۰

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## آنکھیں بڑی نعمت ہیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْعَى إِلَيْهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
 نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
 شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِيهِ  
 اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
 وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
 وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً  
 عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
 أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -  
 أَمَا بَعْدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ○  
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قَدْ أَفْلَحَ  
 الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي ضَلَالٍ تَهْمُمُ  
 خَشْعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَغْرِضُونَ ○  
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلرُّكُونَ فَلَعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ

لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَذْوَاجِهِمْ  
أُوْمَانِكُثْ أَيْمَانِهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝  
فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذُولُونَ ۝

(سورة المؤمنون: ۸-۱)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیزاً سورة مؤمنون کی پانچویں اور پھٹی آیت  
کا بیان گزشتہ دو تبعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و  
تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے  
ایک صفت یہ ہے کہ:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ -

جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طبیعت میں ایک جنسی جذبہ رکھا  
ہے اور چونکہ اسلام ایک دین فطرت ہے، لہذا اس جنسی جذبے کی تسکین کے  
لئے اللہ تعالیٰ نے حلال راست تجویز فرمادیا، وہ نکاح کا راستہ ہے کہ نکاح کے  
ذریعہ انسان اپنے اس فطری جذبے کی سمجھیل کرے، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ  
موجب اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن اس نکاح کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ  
اختیار کرنے والے لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ تو

بہت مختصر استعمال فرمایا کہ وہ حد سے گزرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خرابیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جو شخص نکاح کے رشتے کے باہر اپنے جنسی جذبے کی تسلیم کرتا چاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، یہ اس آیت کے مطلب اور تشریع کا خلاصہ ہے۔

### پہلا حکم: نگاہ کی حفاظت

شریعت نے جہاں ناجائز جنسی تسلیم کا راستہ بند کیا اور اس کو حرام قرار دیا تو اس کے لئے فضابھی ایسی سازگار پیدا فرمائی۔ جس میں اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لئے آسان ہو جائے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے راستے کو آسان سے آسان فرمایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں طرح طرح کی رسماں اور قیدوں سے اس نکاح کو جکڑ کر اپنے لئے اس کو مشکل بنادیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وہ تمام دروازے بند فرمائے جو انسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

النظر منه مسموم من سهام ابلیس۔

یہ نظر شیطان کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیجے میں انسان کی سوچ

انسان کی غفر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے شریعت نے پہلا پھرہ انسان کی نگاہ پر عائد فرمایا۔

### آنکھیں بڑی نعمت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان چینائی سے محروم ہو تو وہ لاکھوں کروڑوں روپیے بھی خرچ کر کے بھی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں مفت میں بغیر معاوضہ کے عطا فرمائی ہے، اس لئے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی اور یہ نعمت پیدائش سے لے کر مرتبے دم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک اتنی ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آجائے، ذرا خراش لگ جائے تو یہ بیکار ہو جائے، لیکن اتنی نازک مشین پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نہ اس کی سروں کی ضرورت ہے نہ اس کو پڑوں اور حل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹھیجک نظام کے تحت اس کی سروں بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنچاتے رہتے ہیں چنانچہ جو لقرہ تم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہو اسی لقرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جسم کے ہر حصے کو غذا پہنچاتے ہیں اسی طرح آنکھ کو بھی پہنچاتے ہیں۔

## آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آنکھ جسمیں اس لئے دی گئی ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو تاکہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آنکھ پر صرف چیزوں کو نہ دیکھنے کی پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف مت دیکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے مت دیکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا گیا اور فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر۔

یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ لذت کی غرض سے شهوت کی نگاہ سے کسی غیر محروم کو دیکھنا یہ بدنظری ہے، اس کو شریعت میں ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہوں گے۔

## شرمنگاہ کی حفاظت آنکھ کی حفاظت پر ہے

چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ:

قُلْ لِلّٰهِ مُؤْمِنُونَ يَقْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا

(سورة المؤمنون، آیت ۲۰)

فُرُوجُهُمْ۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ متمنوں سے فرمادیں کہ وہ اپنی نگاہیں نہیں رکھیں، اور اپنی شرماگاہوں کی حفاظت کریں اور یہ تمہارے لئے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نہیں رکھیں، اور اپنی شرماگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرماگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آغاز آنکھ کی حفاظت سے ہو، اور جب آنکھ محفوظ رہے گی تو پھر تمہاری شرماگاہ بھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے۔ یہ حکم کسی مولوی اور ملا کا بیان کردہ حکم نہیں ہے، یہ کسی قدامت پسند، مذہبی، دہشت گرد کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔

### قلعے کا حصارہ کرنا

جب تک مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سناتھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدۃ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، اور شام کے فاتح ہیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے سر کھا بعد میں وہ شام کے گورنر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا حصارہ کر لیا،

محاصرہ لبا ہو گیا اور قلعہ قلعہ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بڑی ثابت قدمی سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں، آپ اپنی فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ سازش کی کہ شہر کا دروازہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لبا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکانیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل پر جا کر ختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کو مزین کر کے اور آراستہ کر کے ہر دکان پر ایک ایک عورت کو بٹھا دیا، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دی کہ اگر یہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد تمہیں چھیڑنا چاہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو تم انکا رمت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ لوگ جماز کے رہنے والے ہیں مگریں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد اچانک ان کو خوبصورت اور آراستہ عورتیں نظر آئیں گی تو یہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، اور جب یہ ان کے ساتھ مشغول ہوں گے، اس وقت ہم پیچے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔

### مؤمن کی فراست سے پچو

منصوبہ پنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب

حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرماتے ہیں تو فرست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظَرُ بِنُورِ اللَّهِ۔

یعنی مومن کی فرست سے بچو، کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب یہ پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ما تھا تھنک گیا کہ اب تک یہ لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب اچانک یہ کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیش کش کر دی، اور فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس میں ضرور کوئی گھٹ بڑ معلوم ہوتی ہے۔

### پورا شکر بازار سے گزر گیا

چنانچہ آپ سارے شکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیٹک داخل ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس وقت آپ نے یہ آیت تلاوت کی:

فَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُبُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا

فُرُوجَهُمْ۔

(سورہ النور، آیت ۳۰)

یعنی مومنوں سے کہد و کہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لئے پاکیزگی کا راستہ ہے۔ چنانچہ لشکر قلعے کے اندر اس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں پنجی تھیں اور اسی حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے اور کسی نے دائیں بائیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا فتنہ ان دکانوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔

### یہ منظر دیکھ کر اسلام لائے

جب شہروالوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ کوئی مخلوق ہے اس لئے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے آزادی کے ماحول میں داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے اور عصمتیں لوٹتی ہے، لیکن یہ عجیب و غریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہد یا تھا کہ نگاہیں پنجی رکھنا تو سب کی نگاہیں پنجی تھیں، اور اس حالت میں پورا لشکر اس بازار کو پار کر گیا۔ اور شہر کے بے شمار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمادی۔

### کیا اسلام تکوار سے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ ”اسلام“ تکوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلا تھا صحابہ کرامؐ کے اس عمل سے پھیلا تھا۔ بہر حال آنکھوں کو پنجی رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور

نسانی اور شہوانی فتنے سے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی چال سے بھی حفاظت فرمائی۔

### شیطان کا حملہ چار اطراف سے

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت سے نکلا ہے اور میری یہ دعا بھی آپ نے قبول کر لی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو اس نے یہ عزم کیا تھا کہ یہ آدم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلا پڑا اس کی اولاد کو میں اس طرح گمراہ کروں گا کہ:

لَا تَيْنُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِيلِهِمْ وَلَا تَجِدُهُمْ كَثِيرًا

شَاكِرِينَ۔  
(سورۃ الاعراف، آیت ۷۱)

یعنی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، باخیں طرف سے حملہ کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا۔ لہذا شیطان نے چاروں جہتیں گھیر رکھی ہیں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستوں کو بیان کرتا بھول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک نیچے کی جہت۔ لہذا یہ چاروں سے تو حملہ آور ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے، یا نیچے ہے اور اوپر کے راستہ کا

مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو، اور اس سے مدد مانگو، اس سے رجوع کرو، اس کی طرف اثابت کرو اور کہو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے گیرے ہوئے ہے۔ اپنے فضل و کرم سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچائیئے، لہذا اور پر کاراستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔

### نیچے کاراستہ محفوظ ہے

اور نیچے کاراستہ شیطان سے اس لئے محفوظ ہے تاکہ تم نگاہ کو نیچے کر کے چلو، دائیں باسیں آگے بیچپے ان چاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہو سکتا ہے، لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ جب تم نیچے نگاہ کر کے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو تاکہ اس فتنے میں جتلنا نہ ہو۔ بہر حال! یہ نگاہ کا فتنہ انسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلا ایسی سمجھیل گئی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ چاروں طرف نگاہ کو متوجہ کرنے اور نگاہ کو بچانے کے سامان بکھرے پڑے ہیں، ہر طرف سے دعوتِ نظارہ مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں پرده تھا جا ب تھا حیاہ تھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ مقامات اس کے اندر موجود تھیں۔ لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی، بے

حیائی، بے شری اور فحاشی اور عریانی کی دوڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کسی طرف نگاہ کو گناہ نہیں ملتی۔

### اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا وھیان

دوسرा مسئلہ یہ ہے کہ ہم تین کمزور ہو گئی ہیں اور ایک موسم کے اندر اپنے آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہوتا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو ہر وقت پیش نظر رکھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے اس کی وجہ سے چاروں طرف بد نظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ شریعت کے جس حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہو جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس حکم پر اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔

### اچھتی نگاہ معاف ہے

پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلا قصد اور بلا ارادہ کسی نا محروم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے بیہاں معاف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ حکم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لک النظرة الا ولی ولیست لک الثانية۔

یعنی پہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسرا نگاہ ذاتی اور اس کو باقی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابل موال خدھہ ہے، لہذا اگر کبھی بلا اختیار

نگاہ پڑ جائے تو یہ سمجھ کر فوراً ہٹائے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور یہ مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہو، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ جب تک تم بد نگاہی نہیں چھوڑ دے گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بد نگاہی کو چھوڑنے کے لئے تیار ہو جاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے بچنے کے لئے تیار ہو سکتا ہوں تو آج بھی یہ سوچ کر تیار ہو سکتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس گناہ سے منع کیا ہے۔

### یہ نمک حرای کی بات ہے

آدمی یہ سوچے کہ جس محسن نے بلا معاوضہ بے مانگے بلا قیمت یہ نعمت سمجھے دے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی نمک حرای کی بات ہے، اس نمک حرای سے بچنے کے لئے میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹالے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت دی ہے، اپنی ہمت سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیتا ہے، لہذا اس ہمت کو استعمال کرو اور اس نظر کو ہٹالو، اور تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹالے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذت عطا فرمائیں گے جس کے آگے بد نگاہی کی لذت میں پیچ دریچ ہیں، ان لذتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔

## اللہ تعالیٰ سے دعا

اس کے علاوہ یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ! میں کمزور ہوں بے ہمت ہیں بے حوصلہ ہوں اے اللہ! جب آپ نے یہ کام گناہ قرار دیا ہے تو اپنی رحمت سے مجھے ہمت بھی عطا فرمائیے، مجھے حوصلہ بھی دیجئے، اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کے اس حکم پر عمل کر سکوں، اور آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو صحیح استعمال کر سکوں، غلط جگہ استعمال کرنے سے بچوں۔ خاص طور پر اس وقت جب آدمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کون سافتنہ پیش آجائے، اس لئے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عہد تو کرتا ہوں کہ آپ کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال نہیں کروں گا لیکن مجھے اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں بچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اپنے فضل و کرم سے اس فتنے سے بچا لیجئے۔ یہ دعا مانگ کر گھر سے باہر نکلو اور ہمت کو کام میں لاو، اور اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار کرو۔ اگر انسان یہ کام کرتا رہے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دُعَوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

## خواتین اور پرده

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ظلیم



مطبع و ترتیب  
مذعہد اسلام

میمن اسلامک پبلیشورز

"مریم بنت جابر راپی"

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد تماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

## خواتیں اور پرده

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَعْمَدُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَعْوَذُ عَلَيْهِ وَ نَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شُرُورِ أَنفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِي  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ  
وَ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَ أَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ نَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدا  
عَبْدَهُ وَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى  
إِلَيْهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -  
أَمَّا بَعْدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خُشِّعُونَ ۝ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُغْرَضُونَ ۝  
وَ الَّذِينَ هُمْ بِالرَّزْكَوَةِ فَعَلُونَ ۝ وَ الَّذِينَ هُمْ

لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلَوِّثِينَ ۝  
 فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَّوْنَ ۝  
 (سورة المؤمنون: ۱-۸)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق  
 رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
 الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مومنوں کی  
 صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن ان صفات کے حامل  
 ہوں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت یہ  
 بیان فرمائی کہ جو مومن اپنی شرما ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں،  
 شرما ہوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرتے ہیں اور  
 عفت و عصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو  
 صرف جائز حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ  
 نکاح کے ذریعہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ اللہ  
 تعالیٰ نے حلال کر دیئے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے  
 رشتے سے باہر اپنی جنسی خواہشات کی تسلیم کرنا چاہتے ہیں، وہ حد سے گزرنے  
 والے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کا انجام دنیا میں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

### پہلا حکم: آنکھ کی حفاظت

میں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے باہر نہ نکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دئے ہیں۔ جن کے ذریعہ ایک پاک دامن معاشرہ وجود میں آسکے، اس پاک دامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لئے آنکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں یہ سفلی اور ناپاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر پرورش پائیں تو پھر ان کو ناجائز تسلیم کا راستہ نہ طے۔ ان میں سے ایک حکم جس کا پچھلے دو جمیعوں میں بیان ہوا، وہ تھا "آنکھ کی حفاظت" شریعت نے آنکھ پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کسی نامحرم کو لذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔

### دوسرا حکم: خواتین کا پردا

پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم جو عطا فرمایا، وہ "خواتین کا پردا" ہے اولًا تو خواتین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ **وَقُرْنَ فِي بَيْوِتِكُنْ وَلَا تَبَرُّجْ جَنْ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ** (سورہ الحاذب، آیت ۳۳) **الْأُولَى**۔

یہ خطاب از واج مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہو رہا ہے، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور اس طرح بناو سکھار کر کے باہر نہ نکلو جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پرده کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتیں، قرآن کریم از واج مظہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔

### خواتین گھروں میں رہیں

لہذا خواتین کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھروں کو سنبھالیں، بلا ضرورت عورت کا گھر سے باہر نکلنا پسندیدہ نہیں کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل حکم یہ ہے کہ خواتین حتی الامکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں تو اس طرح بناو سکھار کر کے نہ نکلیں جیسا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔

### آجکل کا پروپیگنڈہ

یہاں دو باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں اور آجکل کے ماحول میں خاص طور پر

اس لئے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفانِ اندر ہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ غیر مسلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، وہ پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

### آج پروپیگنڈے کی دنیا ہے

آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ جس میں بد سے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بخدا دیا جاتا ہے جیسے کہ یہ کبھی اور سچی حقیقت ہے۔ جرمی کا مشہور سیاست دان گزر را ہے جس کا نام تھا ”گوئیر گرگ“ اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ پھیلاو کر دنیا اس کو سمجھنے لگے، یہی اس کا فلسفہ ہے۔ آج چاروں طرف اسی فلسفہ پر عمل ہو رہا ہے۔

### یہ اصولی حدایت ہے

چنانچہ آج یہ پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اکیسویں صدی ہے۔ اس میں عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دینا پر لے درجے کی وقیانویت ہے اور رجعت پسندی ہے، اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ قدم ٹاکر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے یہ بات سن لیں کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہہ رہا ہے کہ

اپنے گروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔

### مرد اور عورت دو الگ الگ صنفیں

یہ اصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو صنفیں پیدا فرمائی ہیں ایک مرد اور ایک عورت، دونوں مختلف صنفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تخلیق مختلف طریقے سے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھ اور ہے، مرد کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھ اور ہیں، مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر یہ اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظائف زندگی الگ الگ ہیں لیکن آج ”مساوات مردوں“ کا نزہہ لگایا جاتا ہے کہ جو کام مرد کرے وہ کام عورت بھی کرے، یہ مساوات کا نزہہ درحقیقت فطرت سے بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا وظیفہ زندگی بھی مختلف ہے، دونوں کا دائرہ کاربھی مختلف ہے۔

### ذمہ داریاں الگ الگ ہیں

دیکھئے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر کے باہر کی ذمہ داری کر وہ گھر سے باہر وہ اپنی روزی کمانے

کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے ذریعہ پیسے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت یہ ہے، دوسری گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام صحیح ہو، اور گھر کے نظام کے اندر اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی ستمراتی نمایک ہو، اور گھر کے اندر چین و سکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر رکھانے پینے کا بندوبست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور گھر کے اندر کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔

### حضور ﷺ کی تقسیم کار

اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری نظام بتایا تھا اس پر ہزار ہاسالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلا قید نہ ہب و ملت، دنیا کی ہر قوم، ہر مذہب اور ہر ملت میں یہی طریقہ کار رائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی یہی تقسیم کا فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارا کام کھانا ہے، جاؤ، باہر جا کر کماو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تم گھر کے اندر رہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنپالو۔ یہ فطری تقسیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو پزاروں سال سے چلی آ رہی تھی۔

## صنعتی انقلاب کے بعد دو مسئلے

سو ہوی صدی بھیسوی کے بعد جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتیں کامیڈان وسیع ہوا تو ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ مرد کو پیسے کانے کے لئے لبے لبے عرصے تک اپنے گھروں سے باہر رہنا پڑتا تھا، سفروں پر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں زندگی گراں ہو گئی۔ جس کی وجہ سے مرد کو یہ بات گراں معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اخھاؤں۔ ان دو مسئلوں کا حل یورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت سے کہا کہ تمہیں خواجواہ ہزاروں سال سے گھر کے اندر قید رکھا ہوا ہے لہذا تم بھی گھر سے باہر نکلو اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، اور دنیا کی جتنی ترقیاں ہیں وہ سب تم حاصل کرو۔ اس کے ذریعہ یورپ کے مرد کا اصل مقصد یہ تھا کہ عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھے پر تھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کندھے پر ڈال دنے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب عورت بازار میں اور سڑکوں پر آجائے گی تو پھر اس کو بھلا پھلا کر اپنا مطلب پورا کرنے کی پوری گنجائش ہر جگہ میسر ہو گی۔

## آج عورت قدم قدم پر موجود

لہذا اب یورپ میں یہ قصہ ختم ہو گیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور مرد کو لبے لبے سفر پر جانا ہے، اور وہ اتنے لبے عرصے تک اس بیوی کے قرب

سے لطف اندوں نہیں ہو سکے گا، یہ بات ختم ہو چکی اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، دفتروں میں عورت موجود، بازاروں میں عورت موجود، ریلوے میں عورت موجود، جہازوں میں عورت موجود اور ساتھ میں یہ قانون بھی بنادیا گیا کہ اگر دو مرد و عورت آپس میں رضامندی سے جنسی تسلیم کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاقی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہر جگہ موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پر عورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت سے یہ کہدیا گیا کہ تمہیں کماڈ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت حاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

### مغرب میں عورت کی آزادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ یہ فراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام ”تحریک آزادی نساں“ رکھا گیا، یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فraud کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صبح اٹھ کر شوہر صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر میں تالا ڈال دیا۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چالٹ کیر کے سپرد کر دیا گیا، جہاں پر اس کو اناٹ میں تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا سے محروم وہ بچہ چالٹ کیر میں پرورش پار رہا ہے، جو بچہ ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہو کر دوسروں کے ہاتھوں میں پلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیا عظمت ہو گی

اور ماں کی کیا محبت ہوگی۔

### بوزھا باپ "اولڈ اٹچ ہوم" میں

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوزھے ہوتے ہیں تو بیٹے صاحب ان کو لے جایا کر "اولڈ اٹچ ہوم" میں داخل فرمادیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد "چائلڈ کیر" کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تمہارے بڑھاپے میں "اولڈ اٹچ ہوم" کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک "اولڈ اٹچ ہوم" کے نگران نے مجھے خود بتایا کہ ایک بوزھے صاحب ہمارے "اولڈ اٹچ ہوم" میں تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے بیٹے کو ٹیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ آ کر ان کی تجدیز و تکفین کر دیجئے۔ بیٹے نے جواب دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج مجھے بہت ضروری کام درچیش چیز، لہذا میں نہیں آ سکتا، آپ براہ کرم ان کی تجدیز و تکفین کا انتظام کر دیں، اور جو پیسے خرچ ہوں، اس کا مل میرے پاس بھیج دیجئے۔

### مغربی عورت ایک بکاؤ مال

آج مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، ماں باپ کے رشتؤں کی جو منحاص تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیا میٹ ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ عورت ایک

کھلوٹا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک ایسے عضو کو  
بر سر بازار برہنہ کر کے اس کے ذریعہ تجارت چکائی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعہ  
پیسے کانٹے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔

### عورت کو دھوکہ دیا گیا

اس عورت سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہیں گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔  
تمہیں باہر اس لئے نکالا جا رہا ہے تاکہ تم ترقی کرو، تم سربراہ حملہت بن جانا، تم  
وزیر بن جانا، تم فلاں فلاں بڑے عہدوں پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ  
انھا کر دیکھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ  
بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بنی، صرد وو چار عورتیں وزراء  
بنیں، لیکن ان دو چار عورتوں کی خاطر لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پر گھیث لیا گیا۔  
آج وہاں جا کر دیکھ لیجئے، دنیا کا ذیل تین کام عورت کے پرداز ہے۔ سڑکوں  
پر جہاز دے گی تو عورت دے گی، ہوٹلوں میں دیزرس کا کام عورت کرے گی،  
بازاروں میں سیلز گرل کا کام عورت کرے گی، ہوٹلوں میں بستروں کی چادر  
عورت تبدیل کرے گی، اور جہازوں میں کھانا عورت سرو کرے گی۔ وہ عورت  
جو اپنے گھر میں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو اور اپنے ماں باپ کو کھانا سرو کر رہی  
تھی، وہ اس کے لئے دیقانو سیت تھی، وہ رجعت پسندی تھی، وہ عورت کے لئے  
قید تھی، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے  
اندر سیکڑوں انسانوں کو کھانا سرو کرتی ہے، اور ان کی ہوس ناک بیگاہوں کا نشانہ

بُتی ہے تو یہ عزت ہے اور یہ آزادی ہے۔

خود کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خود  
جو چاہئے آپ کا حسن کر شہ ساز کرے

### عورت پر ظلم کیا گیا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا یہ اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزادی نسوان کے علمبردار کھلاتے ہیں انہوں نے عورت پر جو ظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور بحکریم کی وجہیں بکھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت و مصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں احترام کے ہار ڈالے تھے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور یہ عورت ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو چاہے ان کو بہکاوے، اور اپنا الو سیدھا کرے، چنانچہ آج ہماری مسلمان خواتین نے بھی ان ہی کی لے میں لے ملائی شروع کر دی۔

### ہمارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنماء نے یہ کہد یا تھا کہ ”مردوں کو چاہئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں، عورتوں کو

بلاوجہ گھر سے باہر نکل کر اپنے معاش کا انتظام کرنا نجیک نہیں ہے، اس کے جواب میں جو خواتین مادرن کہلاتی ہیں اور اپنے آپ کو خواتین کے حقوق کی علمبردار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور یہ کہا کہ ان صاحب نے ہمارے خلاف یہ بات کمی ہے۔ اب دیکھئے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آپ کے لئے یہ خدمت انجام دینے کو تیار ہیں۔ اس پر عورتوں کو خوش ہونا چاہئے، مگر جھوٹ کا یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں عالمی طور پر پھیلا�ا گیا ہے، اس لئے خوش ہونے کے بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صاحب خواتین کے حقوق تلف کرنا چاہتے ہیں اور جلوس نکالنے والی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے خواتین کے حقیقی مسائل سمجھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ایک رکنڈیشنر مخلات میں پرورش پائی ہے۔ دیہات میں جو عورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے کوئی تعریض نہیں کیا، کبھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے نزدیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ یورپ اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ ”ہاں تم لوگ روشن خیال ہو“ اور تم لوگ ایکسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس یہ مسئلہ ہے، ان کے نزدیک کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔

ایسی مساوات فطرت سے بغاوت ہے

بہر حال آج یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں پھیلا�ا ہوا ہے کہ یہ مسلمان،

یہ مولوی ملا لوگ عورتوں کو تحریک میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کار تجویز کئے ہیں، مرد کے لئے الگ، عورت کے لئے الگ، اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اور عورت کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں۔ لہذا سعادت کا یہ نظرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خواتین کو پرداہ میں رکھنا ہو گا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثرات کو اپنے معاشرے سے نکالنا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو مغربی آفات سے محفوظ فرمائے، اور چین و سکون کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے آمین۔

وَآخِرُ دُخْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



# بے پردگی کا سیلا ب

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ظلیم



منسجد و تحریک  
مکتبہ ندویہ شمسیہ

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰۰، بیانات کتبہ مدرسیہ

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم  
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## بے پروگی کا سیلا ب

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ  
نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ  
شَرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ  
وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ  
وَأَشْهُدُ أَنَّ مَسِيْدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً  
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى  
أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا -

أَمَّا بَعْدُ فَأَنْعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ○  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قَدْ أَفْلَحَ  
الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَشِعُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ ○  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوْةِ قَاعِدُونَ ○ وَالَّذِينَ هُمْ

لَفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ  
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْؤِمِينَ ۝  
 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُوُنَ ۝  
 (سورة المؤمنون: ۱-۸)

آمنت بالله صدق الله مولاانا العظيم وصدق  
 رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من  
 الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين

### تہذیب

بزرگان محترم و برادران عزیزاً! سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان  
 کافی عرصے سے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی  
 صفات بیان فرمائی ہیں، پچھلے دو جمیعوں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے،  
 جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہوئی چاہئے کہ وہ پاک  
 و امن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے ضمن  
 میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطا فرمایا ہے  
 جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔

### جنی تسلیم کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو  
 عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے، اس  
 لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسلیم کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے

لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راستہ، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات میں تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے تو اس پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے یہ کہا گیا کہ اس حلال راستے سے ہٹ کر جنسی خواہش کی تسکین کا جو راستہ بھی اختیار کرو گے، وہ گناہ ہو گا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالیٰ اس کے لئے یہ راستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاک داشتی اختیار کرے اور اپنے نفس پر کنڑوں کرے، لیکن نکاح کے دائرے سے ہٹ کر اپنی جنسی جذبے کی تسکین کرنے کو حرام اور ناجائز قرار دیدیا۔

### انسان کتے اور ملنی کی صفت میں

اس کی وجہ یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ اس جائز اور حلال راستے سے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کا راستہ ڈھونڈ لے گا تو پھر وہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ کتوں اور بیلوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑوں کو مات کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اس کی خواہشات کی مکمل تسکین نہیں ہوتی۔ آج مغربی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکاح سے باہر

ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تسلیم کے راستے ملاش کئے، تو آج وہ اس حد پر بھیج گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا، ماں اور بیٹے کا فرق مت چکا ہے، بین اور بھائی کا فرق مت چکا ہے اور اس حد پر بھیج گئے ہیں کہ کتے اور لئی بھی ان کی حرکتوں سے شرما جائیں، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسلیم نہیں ہوتی۔

### نہ بھینے والی پیاس بن جاتی ہے

آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لینے کے دروازے چوپٹ سکھلے ہوئے ہیں، کوئی روک نوک نہیں، کوئی پابندی نہیں، اس کے باوجود "زنایا ب مجرم" کے واقعات سب سے زیادہ مغربی ملکوں میں ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جذبہ ایسا ہے کہ جب ایک مرد سے آگے گزر جائے تو کسی حد پر اس کو قناعت نہیں ہوتی، وہ "استقاء" کا مریض بن جاتا ہے، جیسے "استقاء" کا مریض کتنا ہی پانی پی لے، اس کی پیاس نہیں بھتی، اور وہ "جوع البقر" کا مریض بن جاتا ہے، کیونکہ "جوع البقر" کا مریض کتنا ہی کھاتا کھالے، لیکن اس کی بھوک نہیں ملتی، اسی طرح ناجائز ذریحہ سے جسی خواہش پورے کرنے والے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف کے کسی درجہ پر قرار نصیب نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ پیاسا کا پیاسا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے بتا دیا کہ اس حلال دائرے میں

رہو گے تو اس عذاب سے تمہیں نجات مل جائے گی۔

### حرام سے بچنے کیلئے دو پھرے

اب حلال و اائرے میں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں سے بچنے کے لئے شریعت نے جو پھرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پھلے جمو کوشروع کیا تھا، ان میں پہلا پھرہ "آنکھ کی حفاظت" ہے، جس کا بیان پھلے دو جمou میں تفصیل سے ہو گیا۔ دوسرا پھرہ "خواتین کا پردہ" ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مرد کا دائرہ کار اور ہے اور عورت کا دائرہ کار اور ہے، مرد گھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور جیسے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بناو سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے سے تم باہر نہ نکلو، لہذا خواتین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے۔

### خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں

اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکہ اس کے ذریعہ پورے فیلی سشم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں یہ تقسیم کار کرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا لظم و نقیبی درست رکھے اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوس ناک نگاہوں کی تسلیکن کا ذریعہ نہ بنئے۔

## مغرب کا عورت پر ظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت چکانے کا ذریعہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوغزت کے ہارڈا لے تھے، ان کو ملیا میث کر کے اس کو ”سیلز گرل“ بنادیا اور اشتہارات کے اندر اس کو عریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سے مال خریدو۔ یہ سارے کام جواہل مغرب کر رہے ہیں، یہ ان کو مبارک ہوں، لیکن اہل اسلام کی خواتین کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور اگر کسی ضرورت سے نکلا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلا منع نہیں، لیکن اس طرح بناو سنگھار اور زیب و زینت کر کے نہ نکلو جس سے معاشرے میں فتنے پھیلیں۔

## عورت اور لباس

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے جسم میں مرد کے لئے ایک کشش رکھی ہے، وہ فطری کشش ہے، اس وجہ سے خواتین کو اس بات کی تائید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو اپنے جسم کی نمائش نہ کریں اور جو لباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محروم کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے ذریعہ جسم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہو جائیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جسم جھلکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رَبُّكَ كَانَتْ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةً فِي الْآخِرَةِ

(بخاری، کتاب الادب، باب التکبیر والنسبیح عند الصعب)

بہت سی عورتیں اسکی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہنہ اور شنگی ہو گئی، اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس کے نتیجے میں جسم ظاہر ہو رہا ہے۔

### لباس کے دو مقصد

قرآن کریم نے فرمایا:

يَبْيَنِي أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي  
سَوْأاتِكُمْ وَرِيشًا۔ (سورۃ الاعراف: آیت نمبر ۲۶)

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دو مقصد بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے اور دوسرا یہ کہ وہ تمہارے لئے زینت کا سبب ہو۔ آج کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد ختم کر دیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا ستر ظاہر ہو، وہ لباس شرعی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لئے ایسا لباس پہنانا جائز نہیں۔ آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے حصے نمایاں ہو رہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ بہر حال ہا شریعت نے عورت کو پہلا حکم یہ دیا ہے کہ ایسا چست اور ایسا شنگ اور باریک لباس نہ پہنے جس کے اندر سے اس کا جسم جھٹکے، اس لئے کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے پورا جسم عورت کا ستر قرار دیا گیا ہے۔

**باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟**

دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلنے یا نامحرم مردوں کے

سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہوئی چاہئے، چاہے وہ چادر ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تاکہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ بنے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ پھیلے۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر سے باہر نہ نکلے جو بختنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آواز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوبصورتگار کر گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ خوبصورتگار کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوبصورتگار کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جماں میں لگ جاتا ہے۔

### چہرہ کا پردہ ہے

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اتوں تو چہرے کا پردہ ہے، قرآن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

يُذْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابَ بِيُبْهِنَ - (سورۃ الاحزاب: آیت ۶۹)

اس آیت میں ”جلاب“ کا لفظ اختیار فرمایا ہے، یہ جمع ہے ”جلباب“ کی اور ”جلباب“ اس چادر کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو ڈھانپ لے۔ اس میں اور ”برقع“ میں فرق صرف یہ ہے کہ ”برقع“ سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب سلی ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین ”جلباب“ ہی استعمال کیا کرتی تھیں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ ”آپ تمام مومن عورتوں سے کہد بھئے کہ وہ اپنی جلبائیں اپنے اوپر جھکالیں“ اس آیت میں ”جھکانے“ کا حکم دیا ہے، تاکہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب بنے۔ لہذا اول تو چہرے کا پردہ ہے اور قرآن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔

### یہ پردہ سے آزاد ہونا چاہتے ہیں

لیکن میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ درحقیقت پردہ ہی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی ان عورتوں پر نکیر نہیں کی کہ جو باہر نکلتی ہیں تو ان کا چہرہ تو درکنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے بازوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان خواتین نے ایسا چست اور ٹنگ لباس پہننا ہوا ہوتا ہے جو فتنے کا سبب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خواتین پر کوئی نکیر نہیں کرتے، ہاں! اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں۔

### مردو عورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگردانی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، ہر صاف طے میں تحریک کرنی ہے تو مغرب کی تحریک کرنی ہے، اگر نقل انتاری ہے تو مغربی ملکوں کی نقل انتاری

ہے، وہاں مرد و عورت کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہا اور اس درجہ امتیاز ختم ہو چکا ہے۔ کہ بعض اوقات یہ پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے سے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دو الگ الگ صنفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہوتا چاہئے، امتیاز ہونا چاہئے اور پڑھنے چلنا چاہئے کہ یہ مذکور ہے یا مونث، مرد ہے یا عورت، لیکن آج کی اس نئی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کر دیا ہے کہ مرد ہے یا عورت۔

### ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس راستے پر جا رہے ہیں، اسی راستے پر ہم بھی چل پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد و عورت کا آزادانہ اخلاط ہے، ہر ہر قدم پر مرد اور عورت سگھلے ملے ہیں اور دونوں میں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں میں بھی خواتین بن سنور کر، بناؤ سگھار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا بڑا مقصد اپنے بیاس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے اور ان دعوتوں میں مرد و عورت کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشت الگ ہوتی تھی، عورتوں کی نشت الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ ہی ختم ہو گیا، اب تو شادی بیاہ کی تقریبات میں مرد و عورت آزادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو فساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں۔

### بے پردگی کا سیلا ب آرہا ہے

یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ عفت اختیار کرو، عصمت اختیار کرو، پاکداں بنو، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راستے شریعت نے بتائے ہیں، ان میں سے جو ایک اہم راستہ "پرده" کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے پردگی کا یہ سیلا ب پچھلے تقریباً سو سال سے اٹھا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے پرده ہو کر پاہر نکلے گی۔ اور پرده کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آرہا تھا، لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ باور کرنے کی کوشش کی کہ مہذب ہونے، تعلیم یافتہ ہونے اور موذرن ہونے کی ایک نئی یہ ہے کہ عورت بے پرده ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے پردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے پردگی شروع ہوئی تھی، اس وقت اکا د کا خواتین نے پرده چھوڑا تھا، پیشتر خواتین پھر بھی پردوے سے رہتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بے پردگی کی مقدار بڑھتی چلی گئی۔ اس وقت اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ:

بے پرده نظر آئیں کل جو چند ڈبیاں  
اکبر غیرت قوی سے زمین میں گڑھیا  
پوچھا جوان سے پرده تمہارا وہ کیا ہوا؟  
کہنے لگیں: عقل پر مردوں کی پڑھیا

## عورت کی عقل پر پردہ

اکبر مرحوم نے بڑی حقیقت کی بات بیان کی کہ درحقیقت یہ پردہ جو عورت کا تھا، مرد کی عقل پر پڑ گیا، لیکن میں کہوں گا کہ عورت کی عقل پر زیادہ پڑ گیا، اس لئے کہ وہ مغرب کے فریب اور دھوکہ میں آگئی اور اپنی عقل سے کچھ نہیں سوچا کہ میرے لئے کیا مفید ہے اور کیا نقصان وہ ہے۔ سب سے زیادہ فراڈ تو اس عورت کے ساتھ کھیلا گیا اور سب سے زیادہ پردہ تو اسی کی عقل پر پڑا کہ اس نے اپنے عفت و عصمت کا مقام چھوڑ کر اور عزت و احترام کا مقام چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک بکاؤ مال بنادیا۔

## پروپیگنڈے کا اثر

اللہ بچائے، یہ پروپیگنڈہ ایسی چیز ہے جو جھوٹ کو بیج بنادیتا ہے، چنانچہ پردہ کے معاملے میں پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا بیج بنایا گیا ہے کہ آج مرد و عورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر جتلے ہیں، آج مغربی قوم کا یہ دیرہ ہو گیا ہے کہ پروپیگنڈے کے ذریعے جس جھوٹ کو چاہے بیج بنانے کا دکھ دے، اس جھوٹے پروپیگنڈے نے سارا نظام تکپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔

## کیا آدمی آبادی بیکار ہو جائے گی؟

آج ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے میں بٹھایا دیا تو ملک کی آدمی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں، آج یہ بات بڑے زور و شور سے کہی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات

اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سو فیصد ہوتی اور جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، سب برس روزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی، لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی ایچ ڈی اور ماشر کی ڈگریاں رکھنے والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جو تیار چھٹاتے پھر رہے ہیں، وہاں جو مرد تعلیم یافت ہیں ان کو تو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیا نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ سے آدمی آبادی بیکار ہو جائے گی۔

### کام وہ ہے جس سے پیسہ حاصل ہو

اور پھر ان کا یہ کہنا کہ ”آدمی آبادی بیکار ہو جائے گی“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذریعہ پیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سسٹم کو برقرار رکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

### اب بھی ہوش میں آ جائیں

بہر حال! میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آجائے۔ الحمد للہ ہمارا ملک ابھی اس درجے پر نہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن

نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ  
فضا رفتہ بدل رہی ہے، مختلف دعوتی کاموں کی بنیاد پر لوگوں کو کچھ ہوش آ  
رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علماء کی اصلاحی جمیلہ کی بنیاد پر  
الحمد للہ خواتین میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم  
مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم  
معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کے اندر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کا  
شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے بے  
پردگی کا فساد برپا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، اب الحمد للہ  
برقع نظر آ رہے ہیں اور خواتین پردے کی طرف آ رہی ہیں، اس لئے ابھی  
ماحول ایسا سمجھنا نہیں ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو۔

### عقلوں پر سے یہ پرده اٹھائیں

لیکن جیسا کہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردوں کی عقلوں پر پرده  
پڑھکا ہے، اگر مرد حضرات اپنی عقلوں سے یہ پرده اٹھائیں اور وہ اپنے گھر کے  
ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ یہ فضا بدل  
جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قرآن کریم نے کیا ہے، وہ  
حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا  
فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دُغْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



## امانت کی اہمیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حبیب ٹلہم



طبع و ترتیب  
مذوبہ نشریں

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸۰ء۔ یافتہ بادو، کراچی

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم  
گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## امانت کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَةً وَرَسْعَيْنَهُ وَرَسْغَفِرَةً وَرَوْمَنْ بِهِ وَرَنْعَكْلَ عَلَيْهِ  
وَرَغْوَدِ بِاللَّهِ مِنْ هُرُورِ الْقَسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ أَغْمَانَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا  
كَثِيرًا

أَمَا بَعْدُ ۚ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَلْلَخَ الْمُؤْمِنَوْنَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝ وَ  
الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْكُفُوْرِ مُغَرَّبُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكْوَةِ فَعِلُوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِفُرُوجِهِمْ حَقِيقُلُونَ ۝ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَاءِ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُلَوِّمِينَ ۝ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذِلِكَ فَأَوْلَكَ هُمُ الْعَذَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ ۝

(سورۃ المؤمنون ۱ تا ۸)

آمنت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

تمہیں

بزرگان محترم و برادران عزیز : سورۃ المومون کی ان ابتدائی آجou کا بیان کئی مہینوں سے چل رہا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت یہ بیان فرمائی کروہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت یہ بیان فرمائی کروہ لغو اور بے ہودہ کاموں اور باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، تیسرا صفت یہ بیان فرمائی کروہ زکاۃ انجام دیتے ہیں، اس کے دو حصی عرض کیے تھے، ایک یہ کہ وہ لوگ زکاۃ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے اخلاق کا تنزیہ کرتے ہیں، چوتھی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عفت اور عصمت کا تحفظ کرنے والے ہیں، اس صفت کا بیان پچھلے پانچ چھ جمou میں ہوتا رہا ہے۔

### امانت اور عہد کا پاس رکھنا

اس سے اگلی صفت یہ بیان فرمائی کروہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، آج اس آیت کو میرہ کا بیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مومن کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے، قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں، ایک امانت اور ایک عہد۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ امانتوں کا پاس کرنے والا ہے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔

## امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے بھی چیز "امانت" ہے، اور فلاح کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کو تھیک تھیک اس کے احل عک پہنچائے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ مُحْمَدًا أَنْ تُؤْذُوا الْأَمَانَاتِ إِنَّمَا أَهْلُهَا

(التساءل: ۵۸)

یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ثُلَاثٌ مِنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مِنَ الْفَقَادِ عَالَصَّا إِذَا حَدَثَ كَذَبٌ  
وَإِذَا وَعَدَ خَلْفٌ وَإِذَا أُوْتَمِنَ خَانٌ۔

(بخاری۔ کتاب الایمان، باب علامات المنافق)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ بھی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری یہ کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنا�ا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی علامات ہیں، مومن کا کام نہیں۔ اس لئے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔

### امانت اٹھ رکھی ہے

آج ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی ہے، نبی کریم ﷺ کا وہ ارشاد

ہمارے اس دور پر صادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی، اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلاں بستی میں ایک شخص رہتا ہے، وہ امانت دار ہے۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے، سب خائن ہو جائیں گے، اور اگا ڈگا لوگ ہوں گے جو امانت کا پاس رکھنے والے ہونگے۔ ایک موسم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

### حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا

نبی کریم ﷺ نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں "صادق" اور "امین" کے لقب سے مشہور تھے، یعنی آپ سچے تھے، آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا، آپ امانت دار تھے، جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھاتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی کریم ﷺ اس امانت کا حق ادا کریں گے۔ چنانچہ جب آپ نکد مکرمہ سے بھرت فرم رہے تھے، اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم و تم کے پیارا توڑے ہوئے تھے، آپ کے خلاف قتل کے منسوبے بنائے جا رہے تھے، اس حالت میں رات کے وقت آپ کو اپنے شہر نکد مکرمہ سے لکھنا پڑا۔ اس وقت بھی آپ کو یہ لگر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھیں ہو میں ہیں، ان کو اگر پہنچاؤں گا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امانتیں پرد فرمائیں، اور ان کو اپنے بستر پر لٹایا، اور ان سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچاؤ، اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر بھرت کر کے مدینہ منورہ آ جانا۔ اور وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں، بلکہ کافروں کی بھی تھیں، وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے، ان کی

ماں توں کو بھی ان سک واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا۔

## غزوہ خیبر کا ایک واقعہ

غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم ﷺ نے خیبر کے قلعوں کا حاصرہ کیا ہوا تھا، خیبر میں یہودی آباد تھے، اور ان کی خصلت شروع ہی سے سازشی ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بننے رہتے تھے، اور خیبر ان کی سازشوں کا مرکز ہنا ہوا تھا، نبی کریم ﷺ نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے خیبر شہر کا حاصرہ کیا۔ یہ شہر کی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس حاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نبی کریم ﷺ کی فوجوں نے اس کا حاصرہ کیا ہوا تھا۔

## اسود چڑواہا

جب حاصرے کو چند دن گزر گئے تو ایک چڑواہا جس کا نام روايون میں "اسود" آتا ہے۔ جلوگوں کی بکریاں پرایا کرتا تھا۔ وہ بکریوں کو پڑانے کی خاطر قلعے سے باہر نکلا، باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ کا لشکر حاصرہ کے ہوئے ہے، اس چڑواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اور کیا ان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آگیا۔ اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے، البتہ نبی کریم ﷺ کے رسول ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چڑواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں دیکھے

سکتے؟ چہ دا ہے نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کا کوئی محل نہیں ہے، وہ سامنے بھور کے پتوں کا چپڑہ ہے، اس کے اندر وہ تشریف فرمائی ہے، جاؤ، اور جا کر ان سے مل لو۔ اس چہ دا ہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لوں؟ میں تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ قام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بکریاں چراتا ہوں، میں کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں؟۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کو کسی سے ملنے میں کوئی عار نہیں ہے چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو۔

### حضور سے مرکالمہ

چنانچہ وہ چہ دا ہا۔ حیرت کے عالم میں نبی کریم ﷺ کے خیے میں پہنچ گیا، اور اندر جا کر سرکار دو عالم ﷺ جلوہ جہاں آرا کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس چہ دا ہے نے حضور اقدس ﷺ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ کا بیسجا ہوا تنبیہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لیکر آیا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یہی میری نیادی دعوت ہے، اس چہ دا ہے نے کہا کہ اگر میں اس دعوت کو قبول کروں اور اللہ کے سوا ہر موجود کا انکار کر دوں تو میرا انعام کیا ہو گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اور یہ موجودہ زندگی تو عارضی ہے، تا پائیدا رہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی اور ابدی ہو گی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ تھیں، بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔

## اور اسود مسلمان ہو گیا

پھر خدا ہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور تمہیں اپنے بیٹے سے لگائیں گے، اس پڑواہے نے حیرت سے پوچھا کہ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ جبکہ میں سیاہ قام آدمی ہوں، اور میرے سینے سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت میں کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرمادیں کہ یہ مسلمان مجھے ملے لگائیں گے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوبیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے چہرے کی سیاہی کوتا بنا کی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا:

”اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“

اور ایمان لے آیا۔

## پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاو

ایمان لانے کے بعد حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں، جو آپ حکم دیں گے اس کو بجا لاؤں گا۔ لہذا اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو گہریاں جو تم لکر آئے ہو، یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاهدے کے تحت یہ بکریاں لائے ہو کہ تم ان کو پڑاؤ گے، اور پڑانے کے بعد ان کو واپس کرو گے۔

لہذا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ، اور خیر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

## سخت حالات میں امامت کی پاسداری

ذرائع اندازہ لگائیے کہ حالتِ جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ دشمن کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے، ساری دنیا کا یہی قانون ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی، اور کھانے کی کمی عالم تھا کہ اس غزوہ خیر کے موقع پر بعض صحابہ کرام نے مجبور ہو کر گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی، بعد میں حضور اقدس ﷺ نے منع فرمایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چنانچہ گدھے کے گوشت کی کمی دیکھیں اُنہیں سمجھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کس حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پڑواہا ایک معاهدے کے تحت وہ بکریاں لے کر آیا تھا، اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کرو۔ اس کے بعد میرے پاس آتا۔

## تلوار کے سائے میں عبادت

چنانچہ وہ پڑواہا قلعے کے اندر گیا، اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑ دیں، اور پھر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کیا کروں؟ اب سورتے حال یہ تھی کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو نماز کا حکم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کو روزے کا حکم دیتے۔ اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کو زکاۃ کا حکم

دیتے، نجح کا موسم تھا کہ اس سے حج کرایا جاتا۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک جہادت ہو رہی ہے، جو تکواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ لہذا تم اس جہاد میں شامل ہو جاؤ اس چرخا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہو گیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں۔ اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہو گا؟ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرمادیں گے، اور تمہارے بدن کی پریبو کو خوبصورت تبدیل کر دیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہو گیا، اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا، اور شہید ہو گیا۔

## جنت الفردوس میں پہنچ گیا

جب غزوہ خیبر ختم ہوا تو رسول کریم ﷺ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے پاہر لکھے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا ہجوم ہے، آپ قریب پہنچے اور پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جو لوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اس میں ایک لاش نظر آرہی ہے جو ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس آدمی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ اسلئے سب آپس میں رائے زنی کر رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے؟ اور کس طرح شہید ہوا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دکھاو، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چردا ہاتھا، نبی کریم ﷺ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کو نہیں پہنچانے، لیکن میں اس کو پہنچانا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ

اللہ جبار ک و تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرمادیا ہے، اور اسکے جسم کی بدبو کو مشک و غیر سے زیادہ حسین خوب سے تبدیل کر دیا ہے۔

## امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں

اب دیکھئے کہ نبی کریم ﷺ نے میں حالتِ جنگ میں جہاں میدان کا رزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار ہیں۔ وہاں پر بھی نبی کریم ﷺ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرہ داہما امانت میں خیانت کرے، اور مسلمان ان بکریوں پر قبضہ کر لیں۔ بلکہ ان بکریوں کو واپس فرمایا، یہ ہے امانت کی اہمیت اور اسکی پاسداری۔ جس کو نبی کریم ﷺ نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کیا، لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں۔ اسی لئے حدیث شریف میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پہلا منافق ہے، ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔۔۔۔۔ یہ تین اوصاف جس انسان میں پائے جائیں گے تو وہ مومن نہیں کہلانے گا، بلکہ منافق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خیانت سے ہر مسلمان کو بچائے۔ آمين

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



## امانت کا وسیع مفہوم

شیخ الاسلام حضرت مولانا شفیق محمد تقی عثمانی صاحب علم



طباطبائی  
طبعہ انتہی

میمن اسلامک پبلیشورز

"یات کبد، کراپ"

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرزم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا غرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## اِمَانٌ تَكُوْنُ مَفْهُومٌ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَةً وَرَسْتِيْعَةً وَرَسْتَفِيرَةً وَرَوْمَنْ بِهِ وَرَوْكُلْ عَلَيْهِ  
وَرَغْوَذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ الْفَيْنَا وَمِنْ مَيْنَاتِ أَغْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضْلَلٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَبَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَبِيرًا -  
أَمَا بَعْدُ ۝ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَلْتَخَ المُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ  
خَيْفَوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْكُفُوْرِ مُغْرِبُوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلْمَزْكُوْرِ فَلَعُوْنَ  
۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفْظُوْنَ ۝ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكُثَ  
أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِيْنَ ۝ فَمَنْ اتَّخَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ  
الْعَلُوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَغَهِيْرِهِمْ رَاغُوْنَ ۝

(سورة المؤمنون: ٨٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي  
ال الكريم و نعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب

العلماء

تمہیں

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز : سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کافی عرصہ سے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی ان صفات کو بیان فرمایا ہے، جن پر ان کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے، ان صفات میں سے اکثر کا بیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ بعد کو "امانت" کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو امانت کا پاس کرتا ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بہت سی امانتیں اسی ہیں جن کے بارے میں اکثر ویشور ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں کسی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس گناہ سے توبہ اور استغفار کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔

### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچہ عام طور سے لوگ امانت کا جو مطلب سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنے کچھ پیسے یا اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لا کر رکھوادی، اور ہم نے اس کو حفاظت سے رکھ دی، اور اس چیز کو خود استعمال نہیں کیا، اور کوئی گز بُر نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا مفہوم اس سے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

## یہ زندگی اور جسم امانت ہیں

سب سے پہلی چیز جو امانت کے اندر داخل ہے، وہ ہماری "زندگی" ہے، یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ اسی طرح ہمارا پورا جسم سر سے لیکر پاؤں تک یہ امانت ہے، ہم اس جسم کے مالک ہیں، اللہ جل شانہ نے یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ اعضاء جو ہمیں عطا فرمائے ہیں، یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہ کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ ٹاک جس سے ہم سوکھتے ہیں، یہ منہ جس سے ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، ہتاو! کیا تم یہ اعضاء کہیں بازار سے خرید کر لائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی محاوٹے کے اور بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا ہونے کے وقت سے ہمیں دیدیے ہیں، اور ہمیں یہ فرمادیا کہ ان اعضاء سے اور ان قوتوں سے لطف اخھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جھیں کھلو، اجازت ہے۔ البتہ ان اعضاء کو ہماری سعیت اور گناہ میں مت استعمال کرنا۔

## خودکشی کیوں حرام ہے

چونکہ یہ زندگی یہ جسم اور یہ اعضاء امانت ہیں، اسی وجہ سے انسان کے لئے خودکشی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کو قتل کر دینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلئے کہ یہ جان اور یہ جسم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہتے کرتے، چاہے اس کو تباہ کرتے یا بر باد کرتے یا آگ میں جلا دیتے۔ لیکن چونکہ یہ جان اور یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اسلئے یہ امانت اللہ کے پروردگری ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا کیں گے، اس وقت ہم جائیں گے، پہلے سے خودکشی کر کے اپنی جان کو ختم کرنا امانت میں خیانت ہے۔

## اجازت کے باوجود قتل کی اجازت نہیں

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہدے ہے کہ میں تمھیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مجھے قتل کر دو، یا میں تمھیں اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کاٹ لو، میرا پاؤں کاٹ لو۔ کوئی شخص چاہے کتنی ہی اجازت دیے ہے، اور اسنا مپ پیپر پر لکھ دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس پیش کش کو قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے یہ میرے پیسے ہیں تم میلو، اور تم ان پیسوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ پیسے لے لے اور جو چاہے کرے۔ لیکن جان لینے اور اعضاء کاٹنے کا حق حاصل نہیں ہو گا، اس سے پتہ چلا کہ یہ جسم اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اور اس جب امانت ہیں تو اس کو اس کام میں استعمال کرنا ہے جس کی مالک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بچانا ہے جس سے مالک ناراض ہو، اور جو مالک کو ناپسند ہو۔

## اوقات امانت ہیں

اسی طرح زندگی کے یہ لمحات جو گزر رہے ہیں، اس کا ایک ایک الحمد للہ تعالیٰ کی امانت ہے، ان لمحات کو ایسے کام میں صرف کرنا ہے جو دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو، اگر ان لمحات کو اس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔

## قرآن کریم میں امانت

یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحزاب کے آخری رکوع میں

فرمایا ہے :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَعْتَمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَ  
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ دِإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

(الاحزاب : ۷۲)

فرمایا کہ اس امانت کو ہم نے آسمانوں پر اور زمین پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اخھا لو تو ان سب نے اس امانت کے اخھانے سے انکار کیا کہ نہیں یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور اس امانت کے اخھانے سے ذرے، وہ امانت کیا تھی؟ وہ امانت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم تم تھیں عقل دیں گے، اور سمجھ دیں گے، تھیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل، یہ سمجھا اور یہ زندگی تم ہمارے پاس ہماری امانت ہو گی، اور ہم تھیں بتا دیں گے کہ فلاں کام میں اس زندگی کو خرچ کرنا ہے، اور فلاں کام میں نہیں کرتا، اگر تم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تم ہمارے لئے جنت ہو گی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تم ہمارے لئے جہنم ہو گی، اور دائیٰ عذاب ہو گا۔

### آسمان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی پیش کش آسمانوں پر کی گئی کہ تم یہ امانت اخھا لو تو آسمانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں، اگر یہ امانت ہم نے لے لی تو پتہ نہیں کہ اس کو سن بھال سکیں گے یا نہیں۔ اور اگر نہ سن بھال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائیٰ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہو جائے گا اس لئے یہ بہتر ہے کہ نہ نہیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آسمانوں

نے انکار کر دیا ۔

پھر اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیش کیا کہ تو بہت بڑا اور خوبی کرہے ہے، تیرے اندر پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، بنا تات، تیرے اندر ہیں، تم یہ امانت لیلو، تو زمیں نے کہا کہ میں اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں نے اٹھائی تو خدا جانے میرا کیا حشر بنے گا، لہذا اس نے بھی انکار کر دیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہونے میں پہاڑوں سے تشبیہ دیتے ہیں، تم یہ امانت اٹھالو، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پتہ نہیں کامیاب ہوں گے، یا ناکام ہوں گے، اور اگر ناکام ہوئے تو ہمارے اوپر مصیبت آجائے گی۔

### انسان نے امانت قبول کر لی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہ تم یہ امانت اٹھالو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالمِ ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہا سال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، ان سب روحوں کو جمع فرمایا، اور ہر روح ایک چھوٹی سی جیونٹی کی شکل میں سامنے آئی، اور اس وقت ان کے سامنے یہ امانت پیش کی کہ آسان، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر گئے، تم یہ امانت لیتے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں، جب انسان نے قبول کر لیا تو یہ امانت اس کے پاس آگئی۔

لہذا یہ زندگی امانت ہے، یہ جسم امانت ہے، یہ اعضاء امانت ہیں، اور عمر کا ایک

ایک لمحہ امانت ہے، اب جو اس امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہے، سبھی وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَ  
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَإِنَّمَّا تَعْلَمُونَ ۝

(الاعوال : ۷۴)

اے ایمان والو ! اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، اور اللہ کے رسول نے حصیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جو امانتیں تمہارے پاس موجود ہیں ان کو تھیک تھیک استعمال کرو۔ امانت کا سب سے پہلا مفہوم یہ ہے۔

### ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرا مفہوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پر لوگ امانت نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو فرائض اس کے پردا کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ تھیک تھیک بجالائے۔ اور جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ لہذا جو فرائض اس کے پردا کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو تھیک تھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتا ہی کر رہا ہے، اور امانت میں خیانت کر رہا ہے۔

### وَتَخُواه حرام ہو گئی

مثلاً ایک شخص سرکاری دفتر میں ملازم ہے، اور اس کو اس کام پر نکایا گیا ہے کہ

جب فلاں کام کے لئے لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کر دینا۔ یہ کام اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جسکی وجہ تجوہاہ لے رہا ہے، اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے، وہ اس کو مٹلا دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، تاکہ یہ تنگ آ کر مجھے کچھ رشوت دیے۔ آج کے سرکاری دفتر اس بلاسے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آ رہا ہے اس کی کھال اتنا اور اس کا خون پچوڑتا میرے لئے حلال ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اور وہ اس کام کی جو تجوہاہ لے رہا ہے، وہ تجوہاہ بھی حرام ہو گئی۔ اگر وہ اپنے فرانسیسی ملکیک انجام دیتا، اور پھر تجوہاہ لیتا تو وہ تجوہاہ اس کے لئے حلال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جو رشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے حلال تجوہاہ کو بھی حرام کر دیا، اس لئے کہ اس نے اپنے فریضے کو صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔

### ملازمت کے اوقات امانت ہیں

اسی طرح ملازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ (۸) گھنٹے ڈیوٹی دونگا، اب اگر اس آٹھ (۸) گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے کچھ چوری کر گیا، اور کچھ وقت اپنے ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو جتنا وقت اس نے اپنے ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت میں اس نے امانت میں خیانت کی، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھنٹے اس کے پاس امانت تھے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات پک چکے، اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باقی شروع کر دیں یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تجوہاہ اس کے لئے حلال نہیں۔

## پسند نکلایا نہیں؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو یہ حدیث بہت یاد رہتی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسند خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، مگر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پسند نکلائی بھی یا نہیں؟ ہمیں پسند نکلنے کی تو کوئی لکھنیس ہے کہ جس کام میں میرا پسند نکلنا چاہیے تھا وہ نکلایا نہیں؟ اور واقعہ ہم اجرت کے حق دار بنے یا نہیں؟ اس کو تو کوئی نہیں دیکھتا، بس یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو۔ بہر حال ایہ فرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی، اور یہ اوقات کا چڑانا یہ سب امانت میں خیانت ہے، اور اس کے عوض جو پیٹے مل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا رہا ہے۔

## خانقاہ تھانہ بھون کا اصول

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کی خانقاہ میں اور مدرسہ میں یہ طریقہ تھا کہ استادوں کے لئے سختے مقرر تھے کہ فلاں وقت میں وہ استاد آئیگا، اور فلاں کتاب پڑھائیگا، اور مدرسہ کی طرف کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا، مگر ہر شخص کا مزاج ہنا دیا گیا تھا۔ اس لئے جب کوئی استاد تاخیر سے آتا تو وہ رجسٹر پر نوٹ لکھ دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر سے آیا، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لئے آگیا، اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھری دیکھ کر استاد وقت نوٹ کر لیتا کہ یہ دوست اس وقت آیا، اور اس وقت واپس گیا، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہو گیا، اور جب تھنخواہ دصوں کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوار اپیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا

کہ ہم سے اس ماں میں یہ کوتا ہی ہوئی ہے، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں خرچ کر دیا تھا، لہذا اتنے وقت کی تخلوٰہ ہماری کاثلی جائے۔ اس طرح ہر استاد میئنے کے ختم پر درخواست دیکر اپنی تخلوٰہ کٹو اتا تھا۔

### تخلوٰہ کا شنس کی درخواست

الحمد للہ، ہم نے دارالعلوم میں بھی یہ طریقہ رکھا ہوا ہے، اور صدر سے لیکر چپر اسی تک ہر ایک کے ساتھ یہ کام معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعمال ہوا ہے، اس کی تخلوٰہ کنوادیتے ہیں۔ آج کے دور میں تخلوٰہ بڑھانے کی مثالیں تو بہت میں گی، لیکن کوئی درخواست آپ نے ایسی نہیں دیکھی ہو گی جس میں اس نے یہ درخواست دی ہو گئی میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران اتنی دیر اپنا زانی کام کر لیا تھا، لہذا میری اتنی تخلوٰہ کاثل لو، کیونکہ وہ حرام ہے، وہ میرے لئے حلال نہیں۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں۔

### اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آج یہ نعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں پورا ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنا فریضہ پورا ادا کریں، اور ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو ادا کریں، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے، جب ہر انسان اپنے فرائض صحیح طور پر بجالائیگا تو دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہو جائیں گے۔ بہر حال، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھی خاصی طال ملازمت کی آمدی کو حرام بنالیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم صحیح کو صحیح وقت پر آئے، اور شام کو صحیح وقت پر جائے، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر بجالائے، اور دل میں یہ نیت کرے کہ یا اللہ! میں آپ کی مخلوق کی خدمت کے لئے یہاں بیٹھا ہوں، چونکہ اپنا پیٹ

اور اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے تխواہ ضروری ہے اس وجہ سے تخواہ لیتا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں خلوق کی خدمت کروں، تو اس صورت میں یہ پورے آنحضرت (۸) سمجھنے اس کیلئے عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گے، اور تخواہ بھی حلال ہوگی۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کر لی، یا اپنے فرائض پورے طور پر انعام نہیں دیے تو اس نے حلال آمدی کو حرام بنا لیا، اس تخواہ کو آگ کے انگارے بنانے۔

## حلال اور حرام میں فرق ہے

آج ان پیسوں میں فرق نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں یکساں نظر آ رہا ہے ہیں، لیکن جب یہ ہماری ظاہری آنکھیں بند ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ حرام آمدی جو لے کر آیا تھا وہ آگ کے انگارے تھے، جو وہ اپنے پیٹ میں بھر رہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ :

إِنَّ الظِّنَّ بِهِ أَكْلُونَ إِنَّمَا يُنَظَّمُ لِأَمْوَالِ الْيَعْمَنِي ۚ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ

فَمَا كُلُونَ لَهُنَّ بَطَّاغُونَ بِهِمْ نَارٌ

(النساء : ۱۰)

یعنی جو جو گپتیسوں کا مال ظلماء کھاتے ہیں وہ اپنے پیشوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب میں جلا ہے، کسی کو سکون نہیں ہے، کسی کو ہمین نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہر ایک انسان بھاگ دوز میں پتلا ہے، یہ سب اس لئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی گھنی میں پڑ گئی ہے، اور جس قوم کو حلال اور حرام کی پرواہ باقی نہ رہی ہو، وہ فلاح کہاں سے پائے گی، قرآن کریم کا فرمان یہ ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جو امانتوں کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

## عاریت کی چیز امانت ہے

امانت کی ایک اہم قسم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عاریت آگئی ہے، "عاریت" کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی سے کوئی چیز استعمال کے لئے لے لیتا، مثلاً کوئی کتاب دوسرے سے پڑھنے کے لئے لے لی، یا دوسرے کا قلم لے لیا، یا گاڑی لیلی، یہ چیزیں امانت ہیں، لہذا اپنی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، چنانچہ ایک چیز وقتوں ضرورت کے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لی تھی، اب ضرورت ختم ہو گئی، لیکن وہ چیز آپ کے پاس کے پاس پڑی ہوئی ہے، واہس پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔ اور اصل مالک بعض اوقات مانگتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے ماں گا تو اس کو برآ گئے گا، لیکن اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری یہ چیز فلاں کے پاس ہے، اور آپ نے بے پرواہی میں وہ چیز ڈال رکھی ہے، تو جتنی دیر یہ چیز اس کے مالک کی خوش دلی کے بغیر آپ کے پاس رہے گی، اتنی دیر آپ امانت میں خیانت کے مرکب ہوں گے۔

## حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ اور امانت کی فکر

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ عز وجلہ، جب آخری عمر میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور صاحب فراش ہو گئے تھے، اور دل کی تکلیف تھی، چار پائی سے انھ کر چلانا مشکل ہوتا تھا، اس لئے اپنی چار پائی پر ہی سارا کام انجام دیتے تھے، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے، اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو ہمیں حکم

دیتے کہ یہ برتن فوراً باور پھی خانے میں پہنچا دو، بعض اوقات ہم کسی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے۔ اسی طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کرے سے اس کرے میں آجائی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فوراً واپسی کا حکم دیتے کہ اس کو اپنی جگہ رکھ دو۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت! یہ سب آخر گمراہی کی چیزیں ہیں اگر ان چیزوں کو اپنی جگہ رکھنے میں تھوڑی تاخیر ہو چائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تاخیر کی وجہ سے اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟

اس وقت جو جواب دیا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ اللہ والے کتنی دور کی بات سوچتے ہیں۔ فرمائے گئے کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں یہ لکھ دیا ہے کہ جتنی اشیاء اس کرے میں ہیں، وہ صرف میری ملکیت ہیں، اور باقی گمراہی ساری اشیاء میں اپنی الہیہ کی ملکیت کر چکا ہوں، وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں، اب اگر کوئی چیز باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اسے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچاؤ۔

## موت کا وھیان ہر وقت

دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرا اس حالت میں انتقال ہو جائے، اور وہ چیز میرے کرے میں پڑی رہ جائے، اور جبکہ وصیت نامے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں میرے کرے میں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں، تو اس وصیت کے اعتبار سے جو چیزیں میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شمار ہو جائیں گی، اور اندیشہ ہے اس کے نتیجے میں حقدار کا حق فوت ہو جائے گا، اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلد از جلد اپنی

جگہ پر بیکھ جائے۔۔۔ اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے حکم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لاپرواہی میں جلتا ہیں، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، میں اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ کسی بیچارے نے آپ کے پاس اپنے برتوں میں کھانا بھیج دیا تھا، اب آپ کھانا کھا کر ختم کر چکے، لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھجوانے کا کوئی اہتمام نہیں، حالانکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں، اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس ثوٹ جائے تو اس کا دبال آپ کے ذمے ہو گا، چونکہ آپ نے بر وقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔

### دوسرے کی چیز کا استعمال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دسرے کی چیز ہمارے استعمال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعمال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چھپے استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہو گی، اور برا اگناہ ہے، مثلاً کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعمال کر لی تو ناجائز، حرام اور امانت میں خیانت ہے۔

### وفتری اشیاء کا استعمال

جو لوگ وفتر میں ملازم ہوتے ہیں، ان کو وفتر کی طرف سے بہت سی چیزیں استعمال کرنے کے لئے ملتی ہیں، اب وفتر کے قواعد اور ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز

ہے، اور اگر ان قواعد اور ضوابط کے خلاف استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے، اور امانت میں خیانت ہے۔ مثلاً دفتر کی طرف سے آپ کو چین ملا ہے، پسیڈ ملا ہے، لفافے ملے ہیں، یادفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یادفتر کی طرف سے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائیکل ملی ہوئی ہے۔ اور اب ان چیزوں کے استعمال کے بارے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعمال کیا جائے، تو اب قواعد کے راستے میں ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے، ان قواعد سے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کر لیا تو خیانت ہے، اور اس کے نتیجے میں خیانت کا عظیم سناہ انسان کے ذمے لازم آ جاتا ہے، کہاں تک شمار کیا جائے ورنہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس امانت موجود ہے۔

### دواوں کا غلط استعمال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے علاج کرتا بہت آسان کر دیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیسے آسان کر دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پڑوں میں ایک صاحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں، ان کو اپنے دفتر سے علاج کی سہولت ملی ہوئی ہے، وہ جو دو اخیریدتے ہیں، اس کا بل دفتر میں جمع کر دیتے ہیں، دفتر والے وہ رقم ان کو ادا کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ تمہیں جب بھی کوئی دوائی خریدنی ہو، تم خرید کر مل مجھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تمہیں دی دیا کرو گا، اس طرح تمہیں یہ دوائیاں مفت مل جائیں گی۔

اب دیکھئے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے یہ سہولت دے رکھی تھی کہ ان کے گمرا کوئی آدمی بیمار ہو جائے، اور اس کے علاج پر جو خرچ آئے تو اس کا بل جمع کر دیں تو

ان کو فتر سے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن انہوں نے یہ خاوت شروع کر دی کہ اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے دوستوں کو اس میں شامل کر لیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دعا بازی اس کے اندر موجود ہے، اور امانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جو رقم تمہیں مل رہی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے بس وہیں پر استعمال کرنا آپ کے لئے حلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، وہ صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ بہت بُرا گناہ ہے، جس کے نتیجے میں آخرت میں گردن پکڑی جائے گی۔

### حرام آمد نی کاذر ریعہ

یہ تو صرف خاوت کی حد تک بات تھی، جب کہ بہت سے لوگوں نے اس کو آمد نی کا ذریعہ مختار کھا ہے، مثلاً دسرے سے کہہ دیا کہ تم دواخیریہ کر مل ہمیں دید و جو پیسے میں گے، اس میں سے آدھے تمہارے، آدھے ہمارے۔ آج امانت کا لحاظ نہ رکھنے کے نتیجے میں محاشرہ تباہ ہو چکا ہے، اور یہ جو دن رات مصیبتیں، پریشانیاں، یکاریاں اور دشمنوں کے جملے، بد انبیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہ سب کیوں نہ ہو، جبکہ ہم نے اپنے آپ کو ان کاموں کے لئے منتخب کر لیا ہے جو کافروں کے تھے، ان کافروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عروج دیدیا۔ اور ہم نے قرآن کریم کی ہدایات کو ترک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پست اور ذلیل ہو رہے ہیں۔

### باطل ملنے کے لئے آیا ہے

میرے والد ماجد قدس اللہ سرزا ایک بدی خوب صورت بات فرمایا کرتے تھے، جو

ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں ابھرنے کی صلاحیت نہیں، قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ :

إِنَّ الظَّالِمَ لَكَانَ ذُلْفُوقًا

(بخاری اسناد : ۸۱)

یعنی باطل تدبیر کے لئے اور منہنے کے لئے آیا ہے، ابھرنے کے لئے نہیں آیا، لیکن اگر کسی باطل قوم کو تم دیکھیو کہ وہ دنیا کے اندر ابھر رہی ہے اور ترقی کر رہی ہے تو سمجھو لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ گلگئی ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں ابھرنے کا دام نہیں تھا۔

### حق صفات نے ابھار دیا ہے

لہذا یہ ہمارے دشمن جن کو ہم روزانہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یا برطانیہ ہو، انہوں نے دنیا کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ کچھ حق کی صفات ان کے ساتھ گلگئی ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاملوں میں امانت داری ہے، اور خیانت سے حتی الامکان اکثر دیشتر لوگ پر بیز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے بڑے دھوکہ باز پڑے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر آپس کے معاملات میں انہوں نے امانت اور دیانت کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص صحیح راست اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عروج دیں گے، آخرت میں اگرچہ ان کا کوئی حصر نہیں ہو گا، لیکن دنیا میں ان کو ترقی دیدی جائے گی، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ آج دنیا کے اعڑوں لیل ہو رہے ہیں۔

## مجلس کی باتیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف نبی کریم ﷺ نے وضاحت کے ساتھ توجہ دلائی، چنانچہ آپ نے فرمایا "الْمَعْجَالِيُّ بِالْأَمَانَةِ" یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کسی گئی بات بھی "امانت" ہے، مثلاً دو چار آدی بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے کوئی بات کہی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو کہیں اور جا کر نقل کر دیں، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ سے نکل کر آپ کے کان میں پڑی ہے، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے، لہذا اگر وہ بات کسی اور سے بیان کرنی ہے تو پہلے اس سے اجازت لو کر میں تمہاری یہ بات فلاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کی اجازت کے بغیر اس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔

## راز کی بات امانت ہے

اسی طرح کسی نے آپ کو اپنے راز کی کوئی بات کہروی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اپنی حد تک رکھنا، تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو، اس بات کو کہیں اور جا کر نقل کرنا یہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے اگر دوسرے کے راز کی کوئی بات معلوم ہو گئی تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھر رہے ہیں، یہ سب امانت میں خیانت کے اندر داخل ہے۔

## اعضاء امانت ہیں

اگر ذرا مگہری نظر سے دیکھو تو انسان کا اپنا وجہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جسم سر

سے لکر پاؤں تک ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے پاؤں، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان کیا ہم ان کو کہیں بازار سے خرید کر لائے تھے؟ یا خود ہم نے بنائے تھے؟ بلکہ یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دیے ہیں۔ یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، ہمارے کان بھی امانت ہیں، ہمارے ہاتھ بھی امانت، ہمارے پاؤں بھی امانت، لہذا جب امانت ہیں تو اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گا وہ امانت میں خیانت ہو گی۔

### آنکھ کی خیانت

مثلاً اگر آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں، اور نامحرم پر لذت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جا رہی ہے، اسکی قلمیں دیکھی جا رہی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے، تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آنکھ تمہیں اس لئے دی تھی کہ تم اس سے نفع اٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے ذریعے دیکھو، اس کے ذریعے اپنی بچوں کو دیکھ کر خوش ہو، اس کے ذریعے اپنے والدین کو دیکھ کر خوش ہو، اس کے ذریعے اپنے بھائی، بہن اور دوست احباب کو دیکھ کر خوش ہو، اور اس کے ذریعے دنیا کے کام چلاو۔ لیکن تم نے اس آنکھ کو فساد میں استعمال کر لیا، گناہ اور معصیت میں استعمال کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

### کان اور ہاتھ کی خیانت

یہ کان تمہیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی پاتیں سنو، اچھی باتیں بھی سنو، اور تفریغ کی پاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی پاتیں سننے سے تمہیں روکا گیا تھا۔ لیکن تم نے اس کان کو معصیت کی پاتیں سننے میں استعمال کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت

میں خیانت ہوئی۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے کہ تم اس کے ذریعے جائز مقاصد کا صل  
کر سکو، کماو، محنت کرو، جدوجہد کرو۔ لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے سامنے  
پھیلا دیے، جیساں پھیلا ناتھارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے، جو امانت  
میں خیانت ہے۔ یا ان ہاتھوں سے اسی چیز پکڑ لی جس کا کپڑا ناتھارے لئے جائز نہیں  
تھا، یہ امانت میں خیانت ہے۔

### چراغ سے چراغ جلتا ہے

ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ان  
کو دیکھ کر میں بھی ان جیسا بن جاؤں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر ہر انسان کے دل میں خیر کی  
شمع روشن ہو جائے، تقوے کی شمع روشن ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا  
ہے۔ اگر ایک آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ایک  
چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے، اور اس طرح ماحول  
میں اجالا ہو جاتا ہے، لہذا ہر انسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے، یہ سوچے  
کہ ساری دنیا ایک طرف چارتی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب  
بھی کوئی کام ہوا ہے وہ اکیلے ہی انسان سے ہوا ہے، خبیر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو  
وہ تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب کام شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک  
و تعالیٰ کی طرف سے مرد ہوتی ہے۔

میں تو تھا ہی چلا تھا جانبِ منزل مگر  
لوگ کچھ ملتے گئے، اور قافلہ بنا کیا

دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امانتوں کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمن

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



۲۸۰

## عہد اور وعدہ کی اہمیت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیم



متبط و ترتیب  
مذعوبہ ناشرین

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰/۱۰۰۔ یات کابو مردیں

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## عہد اور وعدہ کی اہمیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَاتِ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ  
وَنَفْرُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هُرُوزِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِي إِلَلَهَ فَلَا  
مُهْلِكٌ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ إِلَلَهَ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
خَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مَيْدَنَاهُ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً غَبَّذَهُ وَرَسُولَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَهَارِكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا  
كَثِيرًا

أَمَا بَعْدُ ۝ فَاغْوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝ وَ  
الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْكُفُورِ مُغْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّزْكَةِ فَعُلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِغَرْوِيجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُلْوَّمِينَ ۝ فَمَنْ اتَّقَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذُولُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لَا مَا لَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَاغُونَ ۝

(سورة المزمون آيات ٨٠)

آمنت بالله صدق الله مولا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم و

نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

### تکمیلہ

بزرگان محترم اور برادران عزیز : سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں، ان کی تشرع کا سلسلہ کافی عرصہ سے جل رہا ہے، اور ہم اس آیت کریمہ تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاج پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ”وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ“ یہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، امانتوں کی رعایتوں سے متعلق میں نے گذشتہ دو جمیعوں میں قدرے تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صورتیں بیان کی تھیں کہ امانت میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، اور امانت میں خیانت کرنا، اور امانت کا پاس نہ رکھنے کی کیا کیا صورتیں ہمارے معاشرے میں رانج ہو چکی ہیں، اور ان سب سے نچھے کی ضرورت ہے۔

### قرآن و حدیث میں عہد

دوسری چیز جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، وہ ”عہد کا لحاظ“، ”رکھنا، یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جو عہد کر لیتا ہے یا جو وعدہ کر لیتا ہے وہ اس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا لحاظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ”وعدہ“ اور ”عہد“ کی پاسداری کا حکم دیا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

(معاشرہ : ۳۳)

یعنی جو عہد کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس عہد کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہو گا۔

کہ تم نے فلاں وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ فلاں عہد کیا تھا، پورا کیا یا نہیں کیا؟  
دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ”

(المائدہ : ۱)

اے ایمان والو ! تم آپس میں کسی کے ساتھ عہد و پیمان پاندھ لو تو اس کو پورا کرو۔ بہر حال؛ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آتی ہے، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان کبھی عہد بھکنی نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وعدہ کو پورا نہ کرنا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے :

آیة المُنَافِقِ ثَلَاثَ

” اِذَا حَدَّثَ كَذَبًا وَ اِذَا وَعَدَ اخْلَفَ وَ اِذَا اُوْتَمِنَ خَانَ ”

منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے،  
جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب  
اسکے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں کیانت کرے۔

(بخاری، کتاب الائیمان، باب علامات المنافق)

وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو

اس سے معلوم ہوا کہ ان تینوں میں سے کوئی کام بھی مؤمن کا کام نہیں، مسلمان کا کام نہیں کردہ جھوٹ بولے، یا وعدہ خلافی کرے، یا امانت میں خیانت کرے۔ آدمی وعدہ کرنے سے پہلے سو مرتبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کر سکوں گا یا نہیں، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب سوچ سمجھ کر مشورہ کر کے تمام حکایج کو سامنے

رکھنے کے بعد جب ایک وعدہ کر لیا تو اب مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آگیا، اور عذر کی حالت اللہ تعالیٰ نے مستثنی فرمائی ہے، اس صورت میں دوسرے آدمی کو بتادے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے کچھ عذر پیش آگیا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہوں۔

### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا، اور ارادہ بھی تھا کہ کل اس کے گھر جائیں گے، لیکن بعد میں تم بیمار ہو گئے، یا گھر میں کوئی اور بیمار ہو گیا، اور اس کی دیکھ بھال کے لئے اس کے پاس رہنا ضروری ہے، اور جانا ممکن نہیں ہے، تو یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورا نہ کرے تو شریعت میں اس کی محجاش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمادیتے ہیں۔ البتہ اس صورت میں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو ایسے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی الجھن اور پریشانی میں جتلانے ہو۔ بہر حال! وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کو حضور اقدس ﷺ نے نفاق کی علامت قرار دی ہے۔

### ایک صحابی کا واقعہ

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم ﷺ کے سامنے ایک صحابی کسی بچے کو اپنے پاس بلانا چاہتے تھے، اور وہ بچہ ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، اور آنے سے انکار کر رہا تھا ان صحابی نے اس بچے کو تغییر دینے کے لئے یہ کہہ دیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمھیں ایک چیز دیں گے، جب حضور اقدس ﷺ نے ان کے یہ الفاظ سنے

"کہ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے" تو آپ نے ان صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا واقعی اس بچے کو چیز دینے کا ارادہ تھا یا یہی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے یہ کہہ دیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے پاس ایک سمجھوتھی، اور میرا ارادہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کو سمجھو رہیوں گا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر واقعی تمہارا سمجھو دینے کا ارادہ تھا، تب تو نحیک ہے، لیکن اگر تمہارا دل میں اس کو سمجھو دینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس کو اپنے پاس بلانے کے لئے اس کو یہ کہہ دیا کہ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے تو یہ تمہاری طرف سے وعدہ خلافی ہو گی۔

### بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں

اور بچے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دو ہر انقصان ہے، ایک انقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے، اور دوسرا انقصان یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی بچے کے ذہن میں آپ یہ بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرابی کی پات نہیں، بچہ کا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے جیسے سادہ پتھر، اس پر جو چیز نقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن سے آپ نے وعدہ خلافی کا نتیجہ بچے کے ذہن میں بودیا، اب اگر وہ بچہ آئندہ کبھی بھی وعدہ خلافی کرے گا تو اس وعدہ خلافیوں کے گناہ میں آپ بھی حصہ دار ہوں گے، اس لئے کہ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کو وعدہ خلاف بنا یا، اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرتا چاہیے کہ یا تو بچہ سے وعدہ کرو نہیں، اگر وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، تاکہ بچے کو یہ احساس ہو کہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے۔

### بچے کے اخلاق بگاڑنے میں آپ مجرم ہیں

ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے،

کر بچے کو تعلیم دلانے کے لئے اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کر دیا، لیکن گھر کا ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس سے اس بچے کا مزاج و مذاق اس کے اخلاق و کردار خراب ہو رہے ہیں۔ مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہیں، اور بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اب آپ نے اس بچے سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کر لیا کہ میں تمہارے لئے ایک چیز لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے، آپ نے اس بچے کو بہلا تو دیا، لیکن جو وعدہ آپ نے اس بچے کے ساتھ کیا تھا، وہ پورا نہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم بننے، دوسرے یہ کہ اس بچے کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بننے، اس بچے کا ذہن پہلے دن سے آپ نے خراب کر دیا۔ لہذا بچے کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔

### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آپ سے ملنے کے لئے آیا، یا کسی کافون آیا، اور بچے نے آ کر آپ کو اطلاع دی کہ فلاں صاحب آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں، یا فلاں صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لئے آپ نے بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ابو گھر پر نہیں ہیں۔ اب بچہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ابا جان گھر پر موجود ہیں، لیکن میرے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود بھوٹ سے کھلوار ہے ہیں کہ جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آج جب آپ اس سے جھوٹ بلوائیں گے تو کل جب وہ جھوٹ بولے گا تو کس منہ سے آپ اس کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے۔ اس لئے کہ آپ نے تو خود اس کو جھوٹ بالے کا عادی پہنادیا، اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر جھوٹ کی

عجیبی اس بچے کے دماغ سے منادی تو اب اگر وہ بچے جھوٹ بولے گا، اور اس بچے کو جھوٹ کی عادت پڑ جائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ وہ آپ نے اس بچے کی زندگی بتاہ کر دی۔ اس لئے کہ جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کو سچائی سکھائی جائے، ان کو امانت داری سکھائی جائے، ان کو وعدے کی پابندی سکھائی جائے۔

### حضور کا تین دن انتظار کرنا

روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا کسی شخص کے ساتھ معاملہ ہوا، اور آپس میں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پر کل کو آپس میں ملاقات کریں گے۔ دن، جگہ اور وقت سب طے ہو گیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم ﷺ اس جگہ پر بیٹھ گئے، اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہو گئے، بکرہ شخص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا، انتظار کرتے ہوئے کئی سخنے گز رسمی، بکرہ شخص نہیں آیا، رسول کریم ﷺ وہاں کھڑے رہے، روایات میں آتا ہے کہ تین دن تک متواتر حضور اقدس ﷺ نے اس شخص کا انتظار کیا، صرف ضرورت کے لئے گھر جاتے، پھر واپس اس جگہ آ جاتے۔ تین دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر شہ آ کر مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، تین دن تک متواتر آپ نے وہاں انتظار فرمایا۔

### حضرت حدیفہ کا ابو جہل سے وعدہ

حضور اقدس ﷺ نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا کہ۔۔۔ انہا کبر آج اس کی

نظیر نہیں پیش کی جاسکتی۔ حضرت خدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، اور حضور ﷺ کے رازدار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں مدینہ طیبہ آرہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل اور اس کے شکر سے ہو گئی، اس وقت ابو جہل اپنے شکر کے ساتھ حضور اقدس ﷺ سے لڑنے کیلئے بارہا تھا، جب حضرت خدیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو اس نے پکڑ لیا، اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ابو جہل نے کہا کہ پھر تو ہم تمہیں نہیں چھوڑ دیں گے، اس لئے کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور ﷺ سے ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر صرف ملاقات کرو گے، لیکن جنگ میں حصہ نہیں لو گے، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ جب حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پہنچے، اس وقت حضور اقدس ﷺ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدرا کے لئے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، اور راستے میں ملاقات ہو گئی۔

### حق اور باطل کا پہلا معبر کہ ”غزوہ بدرا“

اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا حق و باطل کا مرکز کہ (غزوہ بدرا) ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ مرکز ہے جس کو قرآن کریم نے ”یوم الفرقان“ فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا مرکز، وہ مرکز ہو رہا ہے جس میں جو شخص شامل ہو گیا۔ وہ ”بدرا“ کہلایا، اور صحابہ کرام میں ”بدرا“ صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور ”اسماعیل“

بدریں" بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ "بدریں" جن کے بارے میں بنی کریم ﷺ نے یہ پیش کوئی فرمادی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسا صحر کہ ہونے والا ہے۔

### گردن پر تکوار رکھ کر لیا جانے والا وعدہ

بہر حال؛ جب حضور اقدس ﷺ سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصد نہ دیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں اپو جہل نے پکڑ لیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! یہ بدر کا صحر کہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تکوار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اور اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لئے ہم نے وعدہ کر لیا، لیکن آپ ہمیں اجازت دیدیں۔ کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں، اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔

(الاصابة ج ۱ ص ۳۱۶)

### تم وعدہ کر کے زبان دے کر آئے ہو

لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کر آئے ہو، اور اسی شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد ﷺ کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو گے، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حدیقے کی اجازت نہیں دیتا۔

یہ وہ موقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کے کاکتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزار تاویلیں کر لیتا، مثلاً یہ تاویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ چچے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبردستی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا کیا تاویلیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتیں۔ یا یہ تاویل کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے اس لئے حضور القدس ﷺ کے ساتھ چہاد میں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ جبکہ وہاں ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف ۳۱۲ نہتے افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ۰۰ میں اوتھے، ۲ گھوڑے اور ۸ تکواریں ہیں۔ باقی افراد میں سے کسی نے لامبی اخراجی ہے، کسی نے ڈنڈے، اور کسی نے پھر انعامیے ہیں، پیشکرا ایک ہزار سلحشور ماڈل کا مقابلہ کرنے کے لئے جا رہا ہے، اس لئے ایک ایک آدمی کی جان قیمتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدہ کی خلاف درزی نہیں ہوگی۔

### چہاد کا مقصد حق کی سر بلندی

یہ چہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہو رہا ہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ چہاد حق کی سر بلندی کے لئے ہو رہا ہے۔ اور حق کو پا مال کر کے چہاد کیا جائے؟ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں بے کار جا رہی ہیں، اور ساری کوششیں بے اثر ہو رہی ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کریں، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں، ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت پزاروں تاویلیں مسلط رہتی ہیں، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ

اس وقت مصلحت کا یہ تقاضہ ہے، چلو، شریعت کے اس حکم کو نظر انداز کرو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کرو۔

### یہ ہے وعدہ کا ایفاء

لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، نہ مال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ بہادر کہلانا مقصود ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا جائے، اس کو بجاو، چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو غزوہ بدربجی فضیلت سے محروم کھا گیا، اس لئے کہ یہ دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ وعدہ کا ایفاء۔

### حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اگر آج اس کی مثالی مثالیش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاموں میں ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ انہوں نے یہ مثالیں قائم کیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط حکم کے پروپیگنڈے کئے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔ لوگ ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصہ سن لیجئے۔

### فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے۔ اس لئے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی۔ ان کے ساتھ برس پیکار رہے تھے۔ اور روم اس وقت کی پس پاور بھی جاتی تھی، اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ

عنه نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاهده کر لیا، اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ابھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فوجیں رو میوں کی سرحد پر یجا کر ڈال دوں، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں، اس لئے کہ ڈمن کے ذہن میں تو یہ ہو گا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گی۔ پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہو گا، اور یہاں آنے میں وقت لگے گا۔ اس لئے معاهدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آؤ گیں ہو گا، اس لئے وہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں مجھے اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حسرہ تر دوں مجھے جسے فتحہ صر ہو جائے گا۔

### یہ معاهدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں، اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر ان کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاهدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دیدیا، چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، اب فتح کے نشے کے اندر پورا لشکر آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ چیچے سے ایک گھوڑا اسوار دوڑتا چلا آرہا ہے، اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں رک گئے

کہ شاید یہ امیر المؤمنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں :

”الله اکبر ، اللہ اکبر ، قفو عباد اللہ قفو عباد اللہ“  
 اللہ کے بندو، خبر جاؤ، اللہ کے بندو، خبر جاؤ، جب وہ اور قریب آیا تو حضرت معاویہ نے دیکھا کہ وہ عمر بن عيسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ :

”وفاء لا غدر وفاء لا غدر“

مومن کا شیوه و فواداری ہے، غداری نہیں، عہد بختنی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد بختنی نہیں کی ہے۔ میں نے تو اس وقت حملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی، حضرت عمر بن عيسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے اپنی فوج میں جنگ بندی کے دوران ہی سرحد پر ڈال دیں۔ اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاملے کی خلاف ورزی تھی، اور میں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس ﷺ کو یہ فرماتے سنائے کہ :

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلنه ولا يشده

الى ان يمضى اجل له او ينبعذ اليهم على سواء

(ترمذی، کتاب الجہاد، باب فی المقدار، حدیث نمبر ۱۵۸۰)

یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاملہ ہو، تو اس وقت تک عہد نہ کھولے، اور نہ باندھے، ہیاں تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے۔ یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھایے اعلان کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان

کئے بغیر ان کے علاقے کے پاس یجھا کر فوجوں کو ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

### سارا مفتوحہ علاقہ واپس کر دیا

اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک قاتع لٹکر ہے، جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے، اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نئے میں چور ہے۔ لیکن جب حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمان کے ذمے لازم ہے۔ اسی وقت حضرت محاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیدیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے۔ وہ سب واپس کر دو، چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا، اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی تغیری پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو۔ لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا پیش نظر نہیں تھا۔ کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی۔ بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے واپس لوٹ گئے۔ یہ ہے وعدہ، کہ جب زبان سے بات نکل گئی، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہو گی۔

### حضرت فاروق اعظم اور معاهده

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے، ان سے یہ معاهده ہوا کہ تم تھاری حفاظت کریں گے، تھاری جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا کرو گے۔ ”جزیہ“ ایک نیکس ہوتا ہے، جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ

جب معاهدوں بھوگیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرا ساتھ معرکہ چیش آگیا، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں مستعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہیں اس لئے وہاں سے ان کو محاذ پر بھیج دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے، اور فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے میسائی اور یہودی ہیں۔ ان سب کو ایک جگہ جمع کرو، اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذریلا تھا، اور یہ معاهدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی۔ لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آگئی ہے، اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور نیکس کے ادا کیا ہے، وہ ہم آپ واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں سے لے جائیں گے۔ اور اب آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ یہ مثالیں ہیں، اور ہم کسی تردید کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی کہ کسی نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال: مومن کا کام یہ ہے کہ وہ عہد اور وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی عہد شکنی اور خلاف ورزی سے محفوظ رکھے، اس کی مزید تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی وقی تو اگلے جمع کو عرض کروں گا۔

وآخر دعوا ان الحمد لله رب العالمين





## عہد اور وعدہ کا وسیع مفہوم

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حب قلیم



منطبع و ترجمت  
موزع عہد مانندگان

میمن اسلامک پبلیشورز

۱۸۸۰ء۔ باتات، کراچی، پاکستان

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

## عہد اور وعدہ کا وسیع مفہوم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَةً وَرَشْيَةً وَرَسْغَفَةً وَرَوْمَنْ بِهِ وَرَوْكَلْ عَلَيْهِ  
وَرَعْوَدْ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ الْقَسْنَا وَمِنْ سَهَّاتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا  
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَبَيْتَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ  
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آبَاهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً  
كَثِيرًا -

أَمَا بَعْدُ ! فَاغْوُدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  
الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَيْرٌ ۝ وَ  
الَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّحْمَةِ فَعُلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
لِفَرْوَجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَذْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ  
مُتُؤْمِنِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُوُنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ  
إِلَّا مَآتَاهُمْ وَغَهِيَّبُهُمْ رَاغُونَ ۝

(سورة المؤمنون ۱ ق۸)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ،

تمہید

بزرگان حکیم و برادران عزیز : گذشتہ جمکو سورۃ المؤمنون کی اس آیت کا بیان کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ”وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاٰغُونَ“ یعنی یہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں، اس کی رعایت رکھتے ہیں۔ قرآن کریم و حدیث شریف میں عہد اور وعدہ کی پابندی کی کتنی تاکید آتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور سنت میں اس کی کیسی عقیم مثالیں قائم فرمائی ہیں۔ اس کے باارے میں کچھ روایات اور واقعات گذشتہ جمکو عرض کئے تھے۔ آج اس عہد کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلانی ہے، جس کی طرف سے ہم لوگ بکثرت غفلت میں رہتے ہیں، یعنی بعض عہد ایسے ہیں جو ہم نے باندھے ہیں، لیکن دن رات اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا کہ ہم عہد کی خلاف ورزی کے مرکب ہو رہے ہیں۔ اور کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔

### ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال یہ ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے، اور اس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملًا اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا، اب اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور درخواست دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں، لیکن آپ کے قانون پر عمل نہیں

کروں گا، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جو آپ کو شہریت دینے پر تیار ہو جائے؟ لہذا جب کوئی انسان کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملایہ معابدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا، جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی، لیکن عملایہ معابدہ کر لیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، لہذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔

### خلاف شریعت قانون کی خلافت کریں

البتہ مسلمان کا جو عہد ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شخص سے ہو، یا کسی ادارے سے ہو، یا حکومت سے ہو۔ وہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عہدوں ہے جو ایک مسلمان نے کفر شہادت "اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدًا رسول الله" پڑھتے ہوئے کیا، اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تحلیل کروں گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتا ہوں، لہذا آپ کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے مسلمان ہوتے ہی کر لیا ہے، یہ عہد تمام عہدوں پر بالا ہے، اس کے اوپر کوئی اور عہد نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اگر اس کے بعد آپ کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں مثلاً کسی حکومت سے یا کسی ادارے سے یا کسی شخص سے کوئی عہد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا قانون مجھے اللہ کے کسی قانون کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی تافرمانی پر مجبور کرتا ہے، تو اس قانون کی اطاعت باجب نہیں۔ بلکہ اس قانون کی خلافت واجب ہے۔

## حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثال میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مگامار کر قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر استغفار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

لهم على ذنب (سورۃ الشراہ : ۱۳)

یعنی میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے اور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ قتل جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ ایک مظلوم کی مدد فرمائی تھی اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک مگامار نے سے وہ مر جائے گا، اس لئے یہ حقیقت گناہ نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ صورت گناہ کی سی تھی، اس لئے آپ نے اسے گناہ سے تعبیر فرمایا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ تو کافر تھا، اور کافر بھی حربی تھا، لہذا اگر اسے جان بوجھ کر بھی قتل کرتے تو اس حربی کافر کو قتل کرنے میں کیا گناہ ہوا؟ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے شہر میں رہ رہے ہیں تو عملًا اس بات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے، اور ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں، اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل کیا، وہ اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لہذا ہر حکومت کا ہر شہری، جا ہے حکومت مسلمان ہو یا غیر مسلم حکومت ہو، عملًا اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔

## ویز الینا ایک معاملہ ہے

لیکن جو قانون مجھے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، بلکہ کوئی ایسا حکم مجھ پر عائد کر رہا ہے جس سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تو اس قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے مجھ پر واجب ہے، اس میں مسلمان ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کسی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے کسی گناہ پر مجبور نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگی۔

## اس وقت قانون توڑنے کا جواز تھا

آج ہمارے معاشرے میں یہ فضاعام ہو گئی ہے کہ قانون ٹکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علاویہ توڑا جاتا ہے، اور اس کو بڑی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، یہ ذہنیت درحقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور وہاں انگریز کی حکومت تھی، انگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، ۱۸۵۷ء کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے کبھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا۔ لہذا ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے خلاف علماء کرام نے یہ فتوی بھی دیا کہ قانون توڑو، کیونکہ انگریز کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اگرچہ بعض علماء اس فتوی کی مخالفت کرتے تھے، بہر حال؛ اس وقت قانون توڑنے کا ایک جواز تھا۔

## اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے چلنے کے بعد جب پاکستان بنا، تو یہ ایک معاهدے کے تحت وجود میں آیا، اس کا ایک دستور اور قانون ہے، اور پاکستان کے قانون پر بھی یہی حکم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لئے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

## ثریفک کے قانون کی پابندی

اب آپ ثریفک کے قوانین لی لجھئے۔ قانون بعض مقامات پر گاڑی کھڑی کرنا جائز ہے، اور بعض مقامات پر ناجائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانوناً منع ہے وہاں گاڑی کھڑی کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پر گاڑی کی رفتار متعین کروی جاتی ہے کہ اس رفتار پر گاڑی چلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلانے میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے شرعاً بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سکنل بند تھا، مگر آپ سکنل توڑ کر کھل گئے، آپ اس کو بڑی دلاوری اور بہادری سمجھ رہے ہیں کہ ہم سکنل توڑ کر کھل گئے۔ لیکن یہ بھی درحقیقت گناہ ہے، گناہ اس لئے ہے کہ آپ ایسے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو ہمیں کسی گناہ پر مجبور نہیں کر رہا ہے، بلکہ فلاح عام سے متعلق ایک قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا معاهدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔

## ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا

اسی طرح جب آپ دوسرے کسی ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں تو گواہ کر آپ نے معاهدہ کیا ہے کہ ویزے کی جو مدت ہے اس مدت تک میں وہاں ٹھہروں گا، اس کے بعد واپس آجائوں گا۔ اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کر رہے ہیں تو معاهدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور جتنے دن آپ وہاں قیام کر رہے ہیں وہ دعہ کی خلاف ورزی کا گناہ آپ پر لازم آ رہا ہے۔

آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کا نام سن کر ہدکتے ہیں، پاکستانی پاپورٹ دیکھ کر ملک میں پڑ جاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھوکہ دے رہا ہو گا۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ یہاں سے گئے، اور وہاں جا کر ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے، پھر ذلیل و خوار ہو کر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح دنیا کا بھی خسارہ اور آخرت کا بھی خسارہ، دنیا کے اندر یہ ذلت حاصل ہو رہی ہے، اور آخرت میں عبد ٹھکنی کا گناہ ہو رہا ہے۔

## ظامِ حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں، وہ خود ظالم حکومتیں ہیں، رشتہ خور ہیں، بد عنوان ہیں، مفاد پرست ہیں، اپنے مفاد کی خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں، لہذا اسکی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب سمجھے یعنی! جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل سے کئے ہوئے معاهدے کا بھی احترام کیا، کیا ابو جہل سے زیادہ گمراہ کوئی ہو گا؟ کیا

ابوجہل سے بڑا کافر کوئی ہو گا؟ لیکن وہ وعدہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد نے ابوجہل سے کیا تھا، اور ابوجہل نے زبردستی ان سے وعدہ لیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چونکہ ابوجہل سے وعدہ کر چکے ہو، لہذا اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جس شخص سے آپ عہد کر رہے ہیں وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فاسق ہو، بد عنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آپ نے اس سے عہد کیا ہے تو اب اس عہد کی پابندی آپ کے ذمے لازم ہوگی۔ ان کے ظلم اور ان کے فسق و جور کا گناہ ان کے سر ہے، ان کی بد عنوانیوں کا بد للہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دیں گے، وہ جانیں ان کا اللہ جانے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جو معاهدہ کیا ہے، ہم اس کی پابندی کریں۔

خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو  
حدیث شریف میں جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

” و لا تخن من خانك ”

دولفظوں کا جملہ ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم اور سنہر اصول ان دو لفظوں میں بیان فرمادیا، فرمایا کہ جو تم سے خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے، وہ اگر دھوکہ باز ہے، وہ اگر بد عنوان ہے، اسکا یہ مطلب نہیں کہ تم بھی بد عنوانی شروع کر دو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عہد ٹھکنی کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، لہذا حکومت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاهدہ کر لیا ہے تو اس معاهدے کی پابندی تمہارے اوپر لازم ہے۔

## صلح حدیبیہ کی ایک شرط

آپ نے سنا ہو گا کہ ”صلح حدیبیہ“ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے ایک صلح نامہ لکھا تھا، اس صلح نامہ کی ایک شرط تھی کہ اگر مکہ مکہ مسے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کرنا واجب ہو گا۔ اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکہ آجائے گا تو مکہ والوں پر یہ واجب نہیں ہو گا کہ اس کو واپس کریں۔ یہ ایک انتیازی قسم کی شرط تھی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لحاظ سے اس شرط کو بھی قبول کر لیا تھا، اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص سرتمد ہو کر مکہ مکہ نہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے یہ شرط قبول کر لی تھی، لیکن یہ شرط کہ اگر کوئی شخص بھرت کر کے مکہ مکہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ مکہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحت آپ نے قبول فرمائی تھی۔

## حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی التجاء

ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور ابھی بات چیت ہو رہی تھی کہ اس دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی تھے، اور مکہ مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا باپ کافر تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں، اور روزانہ ان کو مارتا تھا، یہ بیچارے روزانہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں ان کا لشکر خبر ہوا ہے تو وہ کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکہ سے حدیبیہ پہنچ گئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے جبکہ

”حدیبیہ“ کا مقام مکہ مکرمہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیزیاں ہونے کے باوجود وہاں پہنچنے ہوں گے۔ اور آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیزیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لئے مجھے اس ظلم سے بچائیے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔

### ابوجندل کو واپس کرنا ہوگا

وہ شخص جس کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس شخص سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بہت تم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت دیدو کہ میں اس شخص کو اپنے پاس رکھ لوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو آپ سب سے پہلے غداری کے مرتكب ہوں گے، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکرمہ سے آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ یہ شخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیزیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہے، اس پر ابھی دستخط ہونا باقی ہے۔ اس لئے اس شخص کو تم چھوڑ دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں کسی قیمت پر اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو واپس بھیجنा ہو گا، اب اس وقت صحابہ کرام کے جوش و خروش کا ایک عجیب عالم تھا کہ ایک شخص سلمان ہے، کافروں ہاتھوں ظلم و تمیل چکی میں پس رہا ہے، وہ حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر پناہ چاہتا ہے۔ لیکن اس کو پناہ نہیں ملتی۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو جندل! میں نے تمہیں اپنے پاس رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں معابدہ کر چکا ہوں، اور اس معابدے کی وجہ سے مجبور ہوں، اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تمہیں واپس بھیجنوں۔ انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ آپ مجھے درندوں کے پاس واپس بھیجنیں گے؟ جو شج شام میرے ساتھ درندگی کا برناڈ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں، اس عہد کی پابندی کرنی ضروری ہے۔

### عہد کی پابندی کی مثال

آپ اندازہ لگائیے، اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کہ ایسے تم رسیدہ شخص کو واپس کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا کر دیے، جس کا المباوا اقعد ہے۔ بہر حال: میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فرمائی۔ لہذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے، وہ کافر ہے، یا فاسد ہے، یا بد عنوان ہے، یا رشوٹ خور ہے، جب عہد کر لیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایسے رشوٹ خور کر پڑھ کام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکمران لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری ہے، لیکن جہاں تک عہد کا تعلق ہے، اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی پابندی ضروری ہے۔

### جیسے اعمال و یہے حکمران

یاد رکھیے: ہم ہر وقت یہ جو حکومت کا رو نادتے رہتے ہیں، اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ کاش کہ ہماری بھجھے میں آجائے، اور ہمارے دل

میں اتر جائے۔ آپ نے فرمایا :

**”إِنَّمَا أَنْعَمَ اللَّهُمْ عَمَالُكُمْ“**

یعنی تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا عکس ہیں۔ اگر تمہارے اعمال درست ہوں گے تو تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے، اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گے تو تمہارے حکمران بھی خراب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق کو دین کے مطابق کر لیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہ پت اور بد عنوان اور خطا کار حکمران جو ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی جگہ عادل حکمران عطا فرمائیں گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مأکملیں، اللہ تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے عبید کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں۔ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کریمہ میں ہماری فلاح کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہماری زندگیوں کے اندر پیوست فرمادے۔ آمین

و آخر دعوا ان الحمد لله رب العلمين



# نماز کی حفاظت کیجئے

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی طلب ظہیر



شطب و ترتیب  
مکتبہ دانشمن

میہن اسلامک پبلیشورز

۱۰۰، لیاقت ناہر گراپی

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تا مغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## نماز کی حفاظت کیجئے

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَ  
نَعْوَذُ عَلَيْهِ وَنَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ مَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا۔  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مَضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ  
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَرَبِّنَا وَ  
سُورَلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَآصْحَابِهِ وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا

أَمَا بَعْدُ ! فَأَغْوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ  
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي  
صَلَاةِهِمْ خَشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَّهِ مَغْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ  
هُمْ لِلرِّزْكَةِ فَعُلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفَظُونَ ۝ إِلَّا

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلْوَمِينَ ۝ فَمَنْ أَبْغَى وَرَءَةً ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَّوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوةِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرَدَوْسَ طَهُمْ فِيهَا خَلِيلُوْنَ ۝

(سورة المؤمنون : ۱۱)

آمنت بالله صدق الله مولاانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز : یہ سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن کا بیان کافی عرصہ سے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسیح موعود کی صلاح و فلاح کے لئے جو صفات ضروری ہیں، ان صفات کا ذکر فرمایا ہے، الحمد لله، ان تمام صفات کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے، یہ بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جو مسیح موعود کی صفات کے بیان میں ہے، وہ آیت یہ ہے:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوةِهِمْ يَحْفَظُونَ ۝ أُولَئِكَ هُمْ

الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ طَهْمٌ فِيهَا خَلِيلُونَ ۝  
 یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والے ہیں، اور  
 یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔  
 جنت الفردوس جنت کے اندر اعلیٰ مقام ہے۔

### تمام صفات ایک نظر میں

یادداشت کوتازہ کرنے کے لئے آخر میں پھر ایک مرتبہ ان تمام اوصاف پر  
 نظر ڈال لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا  
 کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جن کی صفات یہ ہیں، نمبر (۱) وہ اپنی نماز میں  
 خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مومن جو لغو، فضول اور بے فائدہ  
 کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، نمبر (۳) وہ مومن جو زکوٰۃ پر عمل  
 کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ  
 کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمے فرض ہے، دوسرے معنی ہیں کہ وہ  
 اپنے اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، لہذا نمبر (۴) یہ ہوا کہ وہ اپنے  
 اخلاق کو بری عادتوں سے پاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) یہ ہے کہ وہ اپنی  
 شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی زرخیز  
 کنیزوں کے، پہلے زمانے میں کنیزوں ہوتی تھیں، ان سے جنسی خواہش پوری کرنا  
 جائز تھا، ان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں، اور

صرف اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ  
یہ تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے  
لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا  
کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حد سے گزرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں  
 مجرم ہے، نمبر (۶) یہ ہے کہ وہ مومن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں،  
یعنی جو امانت ان کے پاس رکھوادی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر  
(۷) یہ ہے کہ وہ ”عہد“ کا پاس کرنے والے ہیں، جو عہد کسی سے کر لیا وہ  
اس کی عہد شکنی نہیں کرتے، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا  
ہے۔

### پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخر میں اللہ تعالیٰ نے آٹھویں صفت یہ بیان فرمائی ”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى  
حَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ“ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت  
کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے یہ آٹھ صفات بیان فرمائی ہیں جو مومنوں کی  
فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات کو شروع بھی نماز سے کیا گیا، اور نماز ہی  
پختم کیا گیا، چنانچہ سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ جو لوگ اپنی نمازوں  
میں عشوی اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنی  
نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لئے

فلاح حاصل کرنے کا سب سے اہم راست "نماز" ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل سے عرض کر دیا تھا۔

### نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

نماز کی حفاظت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے، یہ نہ ہو کہ آدمی گذے دار نماز پڑھے، کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑ دے، بلکہ پابندی کے ساتھ آدمی نماز کا اہتمام کرے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نماز میں اوقات کے ساتھ شروع رکھی ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سِكَانًا مَوْقُوتًا

(اتہا : ۱۰۳)

یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فریضہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلاں نماز کا وقت اتنے بجے شروع ہوتا ہے، اور اتنے بجے ختم ہوتا ہے، جیسے نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ دو مش ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت دو مش پر شروع ہوتا ہے، اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ لہذا صرف نماز کی پابندی نہیں، بلکہ نمازوں کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

پڑھے۔

## یہ منافق کی نماز ہے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک آدمی بے پرواہ ہو کر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے پر آجائے اور پیلا پڑ جائے اس طرح کہ انسان اس سورج کو کسی تنکیف کے بغیر آنکھ سے دیکھ سکے تو ایسے وقت میں عصر کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے) تو اس وقت انھوں کا س نے جلدی سے چارٹھو نگمیں ماریں، اور نماز ختم کر دی، یہ منافق کی نماز ہے۔ لہذا بات صرف یہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سر سے ٹالنا ہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پر ادا ہو۔ اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لی جائے۔ اگر ایک آدمی بے پرواہ ہو کر پڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آفتاب کے بعد انھوں کو نماز پڑھے تو اس شخص نے قضا نماز تو پڑھ لی، لیکن یہ نماز کی حفاظت نہ ہوئی، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت نماز ادنیں کی گئی۔

اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے

بار بار آپ حضرات سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم

کی اطاعت کا، کسی وقت کے اندر پکھنہیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیدیا کہ فلاں نماز کو فلاں وقت سے پہلے پہلے ادا کرو، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفتاب طلوع ہو رہا ہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ لہذا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

### جماعت سے نماز ادا کریں

تیری بات جو نماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کیا جائے، اور مکمل طریقے سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرے۔ مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت موکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے، البته امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت موکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد مگر میں اکیلا نماز پڑھنے تو یہ ناقص ادا نیکی ہے، فقہاء کرام اس کو اداء قادر کہتے ہیں، اداء کامل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز ادا کرنے کا درجہ زیادہ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ تہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پر ستائیں گناہ ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ اب مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند منٹ زیادہ خرچ ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا ثواب چھوڑ دینا، اور نماز کی ادا بھی کو ادھورا اور تقصی بنا لینا کتنے بڑے گھانے کا سودا ہے۔ لہذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔

### نماز کے انتظار کا ثواب

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اس لئے انسان نماز کے انتظار میں جتنی دیر مسجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا ثواب دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور اس لئے بیٹھے ہیں کہ نماز کا انتظار ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اس لئے اس پر وہی ثواب ملے گا جو نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر آدمی پہلے سے مسجد میں پہنچ جائے تو اس کو مسلسل نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں شکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔

## ان کے گھروں کو آگ لگادوں

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب آپ مسجد نبوی میں امامت فرمائے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، صرف زبان سے کہہ دیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے، اور جماعت میں حاضر ہوتے، البتہ کسی صحابی نے یہ تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑے گا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی اس طرح کروں کہ نماز کی امامت کے لئے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں، اور ان سے کہوں کہ نماز شروع کر دو، اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا، اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگادوں۔

جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صد میں اور غصتے کا اندازہ لگائیے، اس لئے کہ مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ حَتَّىٰ عَلَى الْفَلَاحِ نماز کی طرف آؤ، فلاخ کی طرف آؤ، لیکن یہ شخص گھر میں بیٹھا

ہے، اور اس کے کان پر جوں نہیں رستگتی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے محفوظ رکھے، آمين۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، اور جماعت میں نہیں آ رہے ہیں، اس وقت اس حدیث کا تصور کر لیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہو گا کہ ہمارے گھروں کو آگ لگادیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اپنا گھر بنایا ہے، اور اس کو امت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بخود ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے، پھر مل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعییل میں مسجد کے اندر آؤ۔

### عیسائیت کی تقلید نہ کریں

یہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے لئے سجدہ نیں آئیں گے، اور سارے ہفتے میں مسجد کے اندر آنے کا خیال نہیں آتا، یہ درحقیقت ہم نے اسلام کو عیسائی مذہب پر قیاس کر لیا ہے، عیسائی مذہب والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باقی دنوں میں چھٹی، اور اب تو اتوار بھی ختم ہو گیا، یورپ اور امریکہ میں جا کر دیکھو کہ کیسا

ویران پڑے ہوئے ہیں، اور پادری صاحبان بیٹھے کھیاں مارتے رہتے ہیں، عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں، بہر حال؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار کے دن آیا کرتے تھے۔ اللہ پچائے؛ ہم نے بھی سمجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن مسجد میں جانا چاہیے، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اور جس طرح جمعہ کے دن مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح عام دنوں میں بھی مسجد میں جا کر نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس لئے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔ بہر حال؛ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کرنا نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

### خواتین اوقل وقت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فوراً بعد جلد از جلد نماز ادا کر لیں، خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتا ہی کرتی ہیں کہ نماز کو ملائی رہتی ہیں، اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں جب وقت مکروہ ہو جاتا ہے، ان کے لئے افضل یہ ہے کہ اوقل وقت میں نماز ادا کریں، اور مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کریں۔

### نماز کی اہمیت دیکھئے

اور اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز سے کیا تھا، اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کہ ایک مومن کا سب سے اہم کام نماز

ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آدمی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آجکل تو لوگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں لئے بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگیں ان کے دورِ خلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۱۵ خود مختار ملک بننے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تہا اس کے حکمران تھے، اس وقت ان کی قلمرو میں ان کی ماتحت جتنے گورنر ز تھے، ان کے نام خط لکھا جو ”مؤطرا امام مالک“ میں موجود ہے، اس خط میں فرمایا کہ:

ان اہم امر کم عندي الصلاۃ ، فمن حفظها  
و حافظ عليها حفظ دینه ، و من ضيغها فهو  
لماسوها اضيع -

(مؤطرا امام مالک، کتاب ثقہ امیة حدیث نمبر ۶)

یاد رکھو کہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، اور اس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس شخص نے نماز کو ضائع کیا، وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔

### جنت الفردوس کے وارث

بہرحال؛ اس لئے قرآن کریم نے ان صفات کے بیان کو شروع بھی

نماز سے کیا، اور ختم بھی نماز پر کیا، ان صفات کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ یعنی (۱) نماز میں خشوع (۲) فضول کاموں سے بچنا (۳) زکوٰۃ کی ادائیگی (۴) اخلاق کی درستی (۵) عفت و عصمت کی حفاظت (۶) امانتوں اور عہدوں کی پابندی (۷) نمازوں کی حفاظت۔ یہ ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے، اور یہ ساری صفات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمين

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





## اجمالي فرست

# اصلائي خطبات مكمل

مختصر

جنون

### جلد اول (۱)

۱۔ حصل کا دائرہ کار .....	۲۱.....	۵۔ روزہ ہم سے کیا مقابلہ کرتا ہے ؟ .....	۱۰۹.....
۲۔ ماہ رجب .....	۳۵.....	۶۔ آزادی نسوان کا فریب .....	۱۳۳.....
۷۔ یک کام میں درجہ کچھے .....	۵۷.....	۷۔ دین کی حقیقت .....	۱۲۱.....
۸۔ "سخارش" شریعت کی نظر میں .....	۸۹.....	۸۔ پروت ایک علیین گناہ .....	۱۹۹.....

### جلد دوم (۲)

۹۔ جنی کے حقوق .....	۲۳.....	۱۳۔ سیرت النبی ﷺ کے جلسے دور جلوس .....	۱۷۳.....
۱۰۔ شوہر کے حقوق .....	۷۱.....	۱۴۔ فریب کی تحقیر و کچھے .....	۱۸۹.....
۱۱۔ تربانی، نجع، مشرب، ذی الحجر .....	۱۱۷.....	۱۵۔ قص کی سخن .....	۲۲۵.....
۱۲۔ سیرت النبی ﷺ اور ہماری زندگی .....	۱۳۹.....	۱۶۔ مجاہدہ کی ضرورت .....	۲۲۵.....

### جلد سوم (۳)

۱۔ اسلام اور جدید اقتصادی مسائل .....	۲۱.....	۲۳۔ وعدہ خلائق .....	۲۳.....
۲۔ دولت قرآن کی قدر و عظمت .....	۱۷۳.....	۲۴۔ امانت میں خیانت .....	۱۹۹.....
۳۔ دل کی صاریح .....	۲۵.....	۲۵۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ؟ .....	۱۹۲.....
۴۔ دنیا سے دل نہ کاؤ .....	۲۶.....	۲۶۔ بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تھانے .....	۲۶۱.....
۵۔ کیا مل و دولت کا ہم دنیا ہے ؟ .....	۲۷.....	۲۷۔ تمہارت دین بھی دنیا بھی .....	۲۲۱.....
۶۔ جھوٹ لورا اسکی مردیجہ صورتیں .....	۲۸.....	۲۸۔ خطبہ نماج کی اہمیت .....	۲۲۴.....

### جلد چہارم (۴)

۲۹۔ اولاد کی اصلاح و تربیت.....	۲۱.....
۳۰۔ والدین کی خدمت.....	۵۱.....
۳۱۔ نسبت ایک عظیم گناہ.....	۷۹.....
۳۲۔ سوئے کے آداب.....	۱۰۹.....
۳۳۔ تعلیم مسیح اللہ کا طریقہ.....	۱۳۱.....
۳۴۔ زبان کی حفاظت کیجئے.....	۱۳۵.....
۳۵۔ حضرت مہر احمد اور تفسیر محدث احمد.....	۱۶۳.....
۳۶۔ وقت کی قدر کریں.....	۱۸۳.....
۳۷۔ اسلام اور انسانی حقوق.....	۲۲۱.....
۳۸۔ شبِ رات کی حقیقت.....	۲۶۱.....

### جلد پنجم (۵)

۳۹۔ "تواضع" زرعت اور بلندی کا ذریعہ.....	۲۵.....
۴۰۔ "حد" ایک ملک بماری.....	۴۱.....
۴۱۔ خواب کی شریحی حیثیت.....	۸۲.....
۴۲۔ سنتی کا علاج پستی.....	۱۰۳.....
۴۳۔ آنکھوں کی حفاظت کیجئے.....	۱۱۷.....
۴۴۔ کھانے کے آداب.....	۱۲۵.....
۴۵۔ پیشے کے آداب.....	۲۱۱.....
۴۶۔ دعوت کے آداب.....	۲۲۱.....
۴۷۔ لباس کے شریعی اصول.....	۲۵۷.....

### جلد ششم (۶)

۴۸۔ "توبہ" گناہوں کا تریاق.....	۲۵.....
۴۹۔ درود شریف۔ ایک اہم عبادت	۷۹.....
۵۰۔ طاؤت اور ناپ توں میں کی.....	۱۱۵.....
۵۱۔ بھائی بھائی ن جاؤ.....	۱۳۱.....
۵۲۔ بمار کی عبادت کے آداب.....	۱۶۳.....
۵۳۔ سلام کے آداب.....	۱۸۳.....
۵۴۔ مصافیٰ کرنے کے آداب.....	۱۹۹.....
۵۵۔ چہ زرین نصیحتیں.....	۲۱۳.....
۵۶۔ امت سلسلہ کہاں کثری ہے؟.....	۲۵۱.....

### جلد ہفتم (۷)

۷۱۔ گناہوں کی لذت ایک دھوکہ.....	۷۵.....
۷۲۔ ہماری اور پریشانی ایک نعمت.....	۷۶.....
۷۳۔ اپنی ٹھکریں.....	۱۷۹.....
۷۴۔ گناہگار سے نفرت مت کیجئے.....	۱۷۹.....
۷۵۔ دینی داروں کی حفاظت کے قلعے.....	۱۷۱.....
۷۶۔ سنت کا نداق نہ اڑائیں.....	۱۷۳.....

- ۶۵۔ تقدیر پر راضی رہنا چاہئے ..... ۱۹۱ ..... ۶۷۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے ..... ۲۶۹  
 ۶۶۔ قند کے دور کی نشانیاں ..... ۲۲۵ ..... ۶۸۔ غیر ضروری سوالات سے پر بیز کریں ..... ۲۹۳  
 ۶۹۔ معاملاتِ جدید اور علماء کی ذمہ داری ..... ۳۰۵

### جلد هشتم (۸)

- ۷۰۔ تخلیق و موت کے اصول ..... ۲۴ ..... ۷۱۔ راحت کس طرح حاصل ہو ..... ۹ ..... ۷۲۔ دوسروں کو تکلیف مت دیجئے ..... ۱۰۳ ..... ۷۳۔ گناہوں کا علاج خوف خدا ..... ۱۳۷ ..... ۷۴۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے ..... ۱۷۳ ..... ۷۵۔ مسلمان مسلمان، بھائی بھائی ..... ۲۰۰
- ۷۶۔ عالم خدا سے محبت کیجئے ..... ۲۱۳ ..... ۷۷۔ علامہ کی توجیہ سے جس ..... ۲۲۷ ..... ۷۸۔ فسر کو قدم میں کیجئے ..... ۲۵۷ ..... ۷۹۔ مومن ایک آئینہ ہے ..... ۲۹۵ ..... ۸۰۔ دو سلطے، کتاب اللہ رحیم جال اللہ ..... ۳۱۲

### جلد نهم (۹)

- ۸۱۔ ایمان کامل کی چار علامتیں ..... ۵ ..... ۸۲۔ مسلمان تاجر کے فرائض ..... ۳۹ ..... ۸۳۔ اپنے معاملات صاف رکھیں ..... ۴۳ ..... ۸۴۔ اسلام کا مطلب کیا؟ ..... ۵۰ ..... ۸۵۔ آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟ ..... ۹۱ ..... ۸۶۔ کیا آپ کو خیالات پر بیان کرتے ہیں؟ ..... ۱۵۵ ..... ۸۷۔ مرنے والوں کی برائی مت کریں ..... ۹۳
- ۸۸۔ گناہوں کے نقصانات ..... ۱۶۶ ..... ۸۹۔ منکرات کو روکو۔ ورنہ!! ..... ۲۰۵ ..... ۹۰۔ جنت کے مناظر ..... ۹۳ ..... ۹۱۔ دوسروں کو خوش کیجئے ..... ۲۲۹ ..... ۹۲۔ مراجع و مذاق کی رعایت کریں ..... ۲۸۹ ..... ۹۳۔ مرنے والوں کی برائی نہ کریں ..... ۲۷۴

### جلد دهم (۱۰)

- ۹۵۔ پر بیٹائیوں کا علاج ..... ۲۷ ..... ۹۶۔ رمضان کس طرح گزاریں؟ ..... ۵۹ ..... ۹۷۔ دوستی اور دشمنی میں اعتدال ..... ۸۳ ..... ۹۸۔ تعلقات کو بھائیں ..... ۹۷ ..... ۹۹۔ مرنے والوں کی برائی نہ کریں ..... ۱۰۹ ..... ۱۰۰۔ بحث و مباحث اور جھوٹ ترک کیجئے ..... ۱۱۹ ..... ۱۰۱۔ دین کیسے سکھانے کا طریقہ ..... ۱۳۲ ..... ۱۰۲۔ استخارہ کا مسنون طریقہ ..... ۱۵۵

۱۰۳۔ احسان کا بدل احسان .....	۱۷۱
۱۰۸۔ تعلیم قرآن کریم کی اہمیت .....	۲۲۵
۱۰۹۔ غلط نسبت سے بچئے .....	۲۵۹
۱۱۰۔ رزقی حلال طلب کریں .....	۱۹۱
۱۱۱۔ بُنیری حکومت کی نشانیاں .....	۲۲۳
۱۱۲۔ گناہ کی تہمت سے بچئے .....	۲۱۵
۱۱۳۔ ایثار و فرمادہ کی فضیلت .....	۲۸۹
۱۱۴۔ بڑے کا اکرام کیجئے .....	۲۲۷

### جلد گیارہوں (۱۱)

۱۱۵۔ مشورہ کرنے کی اہمیت .....	۱۱۸
۱۱۶۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہلا سبب ..	۱۷۱
۱۱۷۔ شادی کرو، لیکن اللہ سے ذرود .....	۱۱۹
۱۱۸۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب ..	۲۰۵
۱۱۹۔ طنز اور طعن سے بچئے .....	۱۲۰
۱۲۰۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا تیسرا سبب ..	۲۳۹
۱۲۱۔ عمل کے بعد مدد آئیے گی .....	۱۲۱
۱۲۲۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب ..	۲۶۵
۱۲۳۔ دوسروں کی چیزوں کا استعمال ....	۱۲۲
۱۲۴۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پانچواں سبب ..	۲۷۹
۱۲۵۔ خاندانی اختلافات کے اسباب اور ...	۱۲۳
۱۲۶۔ خاندانی اختلافات کے اسباب کا پہنچا سبب ...	۳۰۱

### جلد بارہویں (۱۲)

۱۲۷۔ یک بختی کی تین علاقوں .....	۱۵۷
۱۲۸۔ حضور ﷺ کی آخری وصیتیں .....	۱۲۹
۱۲۹۔ یہ دنیا کمیل تماش ہے .....	۱۹۳
۱۳۰۔ دنیا کی حقیقت .....	۱۲۷
۱۳۱۔ عید الفطر ..... ایک اسلامی تہوار ...	۸۳
۱۳۲۔ جنائزے کے آداب اور جیگنے کے ...	۱۰۱
۱۳۳۔ پنجی طلب پیدا کریں .....	۲۵۷
۱۳۴۔ خندہ پیشانی سے ملنائی ہے ...	۲۸۵

### جلد ۱۳

۱۰۱۔ مسنون دعاؤں کی اہمیت .....	۲۷
۱۰۲۔ دفعوے کے دوران کی مسنون دعا .....	۲۷
۱۰۳۔ بیت الحکام میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا	۳۹
۱۰۴۔ دفعوے کے دوران ہر عضو دھونے کی علیحدہ دعا	۱۲۵
۱۰۵۔ دفعوے کے بعد کی دعا .....	۵۳
۱۰۶۔ دفعوے کے بعد کی دعا .....	۱۳۹
۱۰۷۔ ہر کام سے پہلے "بسم اللہ کیوں؟" .....	۶۷
۱۰۸۔ نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا .....	۱۳۷
۱۰۹۔ "بسم اللہ" کا عظیم الشان فلسفہ و حقیقت.	۸۳
۱۱۰۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا .....	۱۶۳

مسجد سے نکلنے وقت کی دعا ..... ۱۷۷	۲۲۷
سورج نکلنے وقت کی دعا ..... ۱۹۳	۲۹۱
کمان سے پہلے اور بعد کی دعا ..... ۲۰۷	۲۹۹
سچ کے وقت پڑھنے کی دعائیں ..... ۲۳۹	۳۱۵
سچ کے وقت کی ایک اور دعا ..... ۲۴۷	۳۲۹
مگر سے نکلنے اور ہزار جانے کی دعا ..... ۲۴۸	۳۲۹
مگر میں داخل ہونے کی دعا ..... ۲۶۳	۳۳۹
سوئے وقت کی دعا ..... ۲۶۴	۳۳۹
مگر میں واذ کار ..... ۲۶۵	

## جلد ۱۲

شب قدر کی فضیلت ..... ۱۹۱	۱۹۱
نمایز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریق ..... ۲۰۳	۲۰۳
رج ایک عاشقانہ عبادت ..... ۲۰۴	۲۰۴
نمایز کا مسنون طریق ..... ۲۲۱	۲۲۱
رج میں تاخیر کیوں؟ ..... ۲۲۲	۲۲۲
محرم اور عاشوراء کی حقیقت ..... ۲۲۳	۲۲۳
کلمہ طیبہ کے تفاصیل ..... ۲۵۱	۲۵۱
مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں ہمارا فریضہ ..... ۳۴۹	۳۴۹
اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں ..... ۳۵۰	۳۵۰
دوں ختم صحیح بخاری ..... ۳۸۵	۳۸۵
زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا نصاب ..... ۴۰۵	
کامیاب موسمن کون؟ ..... ۴۰۶	

